


بھلے ہوئے آہو کو پھر سونے حرم لے جل



از افادات

حضر مولانا پیر ذوالفقار الحمد نسبتی نسبتی  
مُحَمَّدِي نسبتی

مرتب

مولانا صلاح الدین سعینی مدظلہ

ترکیسینڈ سرست بگرات انڈیا

مکتبۃ الفقیر



MAKTABA TUL FAQIR  
223 HUMAYUN PURA PATAIALABAD  
PH: 09241-251680

سوئے حرم

(از افادات)

حضرت ولانا پیر روا الفقہار احمد حسن نقشبندی  
مُجددی مذکوہ

(مرتب)

مولانا صلاح الدین سعفی نقشبندی  
ڈالالعلوم فلاح ڈارین ترکیبیز سوت، بگرات انڈیا



جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب ..... سوئے ہرم  
صاحب خطبات: ..... حضرت مولانا چیرذ والفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم  
مرتب: ..... مولانا مصالح الدین سیفی مدخل  
(ترکیب، ضلع سورت، گجرات، انڈیا)

ناشر: ..... مکتبہ الفقیر  
سنت نویہ فیصل آباد 223

اشاعت اول: ..... اکتوبر ۲۰۰۹ء  
اشاعت دوم: ..... نومبر ۲۰۰۹ء

اشاعت سوم ..... منی ۲۰۱۰ء

مکتبہ الفقیر

سنت پورہ فیصل آباد 223 041-2618003

# اجمالی فہرست

نمبرات	عنوان	صفحات
۱	اللہ میں حاضر ہوں	۵
۲	تمنائے دیدار بیت اللہ	۲۹
۳	بیت اللہ	۳۹
۴	غلاف کعبہ اور حجر اسود کی تاریخی حیثیت	۷۳
۵	عشاق کا عمرہ	۹۳
۶	بطواف کعبہ فرم	۱۲۷
۷	انعام باری تعالیٰ	۱۵۱
۸	حج مقبول بنانے کی سی	۱۷۹
۹	اداب زیارت مدینہ	۱۹۷
۱۰	انتخاب لاجواب	۲۱۷
۱۱	حج و عمرہ ایک نظر میں	۲۳۱

# اللہ اللہ اللہ

## کتاب سے پہلے

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعدها  
 زیر مطالعہ کتاب "سوئے حرم" حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے ان خطبات  
 کا مجموعہ ہے جو سر زمین پر ایام حج و عمرہ میں وقتاً فوتاً حاجاج کرام کے سامنے پیش  
 کئے گئے،

ایک توپاک سر زمین پر قیام پھر اس پروہاں کے فیض کا انعام ان دلوں چیزوں نے  
 خطبات کی تاثیر کو دو بالا کر دیا، چوں کہ ان خطبات میں مقامات کی اہمیت فرائض کو اچھا  
 کرنے کی ترغیب و تشویق، صالحین سابقین کے نمونے اور اعمال خیر پر ابھارنے  
 والے مضامین ہیں  
 اسلئے اخیر میں چند صفحات فقہاء کی کتابوں سے "حج و عمرہ ایک نظر میں" بھی شامل  
 کر دئے گئے ہیں،

چوں کہ ان خطبات کا سلسلہ کافی زمانہ سے ہے لہذا مختلف عنوان کے تحت انشاء اللہ  
 مزید کئی جلد بنیں گی قارئین سے درخواست ہے کہ جلد از جلد ان کے وجود میں آنے  
 کے لئے دعا فرمائیں، نیز حضرت والا کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت  
 حضرت والا کو سلامت با کرامت رکھے اور آپ کے فیض کو تا قیامت جاری رکھے آمین

ساس موقعہ پر یہ عاجران تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے جنہوں  
 نے اس کتاب کی اشاعت میں جو بھی حصہ لیا یا شخصی ریحان راوت اور یونس سلیمان  
 حفظہما کا کہ اللہ تعالیٰ دارین میں ان حضرات کو جزاۓ خیر عطا فرمائے آمین

فقط والسلام

نقیر ملاح الدین سیفی نقشبندی

﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾

اللہ میں حاضر ہوں

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی ہمدردی راستہ کاظم

## فہرست عنوانین

نمبر شمار	عنوانین	صفات نمبر
۱	عشق و مستی کا سفر	۸
۲	حالت احرام میں چہرہ کا پردہ	۹
۳	تبیہ اللہ کو محبوب ہے	۱۰
۴	طواف ایک فطری عمل	۱۱
۵	ستاروں کا نظام طواف	۱۲
۶	اہم ترین عبادت	۱۳
۷	پرندوں کا طواف	۱۴
۸	شمع کے گرد پروانے	۱۵
۹	انغافی بزرگ کا نان اسٹاپ طواف	۱۶
۱۰	روزانہ ستر طواف کا معمول	۱۷
۱۱	پکے راستے اور پکے مسافر	۱۸
۱۲	آج کی سوچیں	۱۹
۱۳	کعبہ کی دیدی ہماری عید	۲۰
۱۴	سولہ دن میں سولہ قرآن	۲۱
۱۵	دیہاتی کی شدید بھوک	۲۲
۱۶	تریوڑ کے چکنکوں کی قدر	۲۳
۱۷	بچے کے دل میں بیت اللہ کی محبت	۲۴
۱۸	اپنا وقت کیسے گزاریں	۲۵
۱۹	مردوں میں طواف ایک ساتھ کیوں؟	۲۶
۲۰	روحانی واشنگ مشین	

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# تَلْدِيْسٌ

لَيْكَ الْحُسْنَمَ لَيْكَ

لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ

إِنَّمَا أَحَبُّهُمْ وَأَنْعَمْهُمْ لَكَ

وَالْمَلَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَيْتَنَا، أَمَّا بَعْدُ!

أَغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَوَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ لِلَّهِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

**عشق و مستی کا سفر**

اللہ کے گھر حاضری کے لئے آنے والا ہر آدمی اپنی کیفیت کے ساتھ آتا ہے  
اسلئے کہ یہ عشق و مستی کا سفر ہوتا ہے، دنیا کے سفر تجارت کے لئے ہوتے ہیں سیرو  
سیاحت کے لئے ہوتے ہیں دنیا کے معاملات انجوئے (Enjoy) کرنے کے  
لئے ہوتے ہیں، ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے مگر یہ حج اور عمرے کا سفر ہے اسکا  
تعلق روح کے ساتھ ہے یہ عشق و مستی کا سفر ہے جس میں آنے والا اللہ کی محبت میں  
ڈوب کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اسی لئے احرام باندھنا ضروری قرار دیا گیا  
ہے کہ جب تم اپنے محبوب سے ملنے کے لئے آہی رہے ہو تو تمہیں دنیا کی زیب  
وزیست سے کیا سروکار، یہ امیری اور غربی کافر قب سب ختم کرو، اب تم سب  
بندے ہو۔

آگیا عین لا ای میں اگر وقت نہ از  
قبلہ رخ ہو کے ز میں بوس ہوئی قوم ججاز

ایک ہی صفحہ میں کھڑے ہو گئے محمود و یاں  
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز  
بندہ و صاحب و محتاج وغیرہ ایک ہوئے  
تیری سرکار میں پہنچ تو بھی ایک ہوئے

تو یہ اللہ کا گھر ایسا ہے کہ اس کی سرکار میں پہنچ تو بھی ایک ہوئے، سب کو ایک  
کر دیا کہ یہ جو تمہارے لباس کا فرق ہے اسٹیشن (status) ہے یہ اونچ نیچ ہے  
اس کو پیچھے رکھ دو، سب احرام کی ایک چادر لپیٹ لو اور ایک چادر باندھ لو یہ مردوں  
کا احرام ہے۔

### حالت احرام میں چہرہ کا پردا

عورتوں کو کہا کہ تم جن کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو وہی تمہارا احرام ہے بس اتنی  
کوشش کرو کہ کپڑا تمہارے چہرے سے نہ لگے اب اسکا یہ مطلب نہیں کہ چہرے  
کا پردا نہیں، پابندی یہ ہے کہ پردا بھی رہے مگر چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے اور صحابیات  
 بتائی ہیں کہ اسی وجہ سے ہم بھجور کے پتوں سے بننا ہوا پنکھا سا ہوتا تھا وہ اپنے سر پر  
 رکھ لیتی تھیں تاکہ ہماری چادر چہرے سے ذرا ہٹ کر رہے اور کپڑا چہرے سے  
 نہ لگے، تاہم پرداہ تو رہتا تھا جس پر ودگار نے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے عورت  
 کو پرداہ کا حکم دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اس نے اپنے گھر بلایا تو پرداہ ہشادیا جائے،  
 یہاں تو پرداہ اور بھی زیادہ ضروری ہے، تو مرد کا احرام دو چادریں، خوشبو بھی منع کر دی  
 گئی کہ یہ بھی تو زیب وزینت ہے، تاخن کاشنا، میل کچیل دور کرنا، شکار کھلینا ان سب

چیزوں سے منع کر دیا گیا کہ عاشق کو ان سے کیا غرض اور کیا واسطہ

مرغ دل را گلشن بہتر زکوئے یار نیست

طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست

جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اسکو گل و گلزار سے کیا واسطہ؟

## تبلییہ اللہ کو محبوب ہے

بس تم سب چلو اس گھر کی طرف اور تمہاری زبان پر ایک ہی نغمہ ہو، کیا؟  
 لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں اے میرے پروردگار! میں حاضر ہوں، کیا  
 اچھے اور پیارے الفاظ ہیں، نبی ﷺ جب جمیع الوداع کے لئے تشریف لے جانے  
 لگے تو جریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے  
 خصوصی طور پر بیعام بھیجا ہے کہ آپ صحابہ کو حکم دیں کہ وہ تبلییہ اوپنی آواز سے پڑھیں  
 یعنی اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا، البتہ عورتیں آہستہ پڑھیں اور مرد جہر سے پڑھیں،  
 صحابہ کرام قرما تے تھے کہ ہم اتنا زیادہ تبلییہ پڑھتے تھے کہ ہمارے منہ خشک ہو جایا  
 کرتے تھے اللہ کو یہ کلمہ پسند ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ چار بندے ایسے ہیں  
 کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اللہ تعالیٰ بستی پر آنے والے عذاب کوٹال  
 دیتے ہیں، ایک موذن جب اذان میں اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اللہ اکبر کہنا اللہ کو اتنا  
 پسند ہے کہ اس بستی پر آنے والی مصیبتو کوٹال دیتے ہیں، دوسرا مجاہد جب اللہ کے  
 راستے میں نعرہ لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کو یہ اپنی عظمت اتنی چھپی لگتی ہے  
 کہ اس مجاہد کے نعرے کی وجہ سے بستی پر آنے والے سب کے سب عذاب کوٹال  
 دیتے ہیں، اور تیسرا کوئی بچے جب قرآن مجید پڑھنے کے لئے بسم اللہ پڑھتا ہے  
 تو یہ تسبیہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس بستی پر آنے والے عذاب کوٹال دیا جاتا ہے اور  
 چوتھی بات جب کوئی محرم احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہے اللہ  
 کو یہ لبیک کا لفظ اتنا اچھا لگتا ہے کہ بندے پر سے تو عذاب ناتھے ہی ہیں جس بستی  
 میں وہ بندہ موجود ہواں بستی پر آنے والے عذاب کو بھی نال دیا جاتا ہے، آپ  
 سوچئے کہ یہ کتنا پیارا کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے لبیک حاضر ہوں اللہم  
 لبیک اے اللہ! میں حاضر ہوں، اب آنے والا یہاں آ کر اللہ کے گھر کا طواف  
 کرتا ہے، سعی کرتا ہے، عمرے کے اعمال مکمل کرتا ہے۔

## طواف ایک فطری عمل

یہ جو اللہ کے گھر کا طواف ہے وہ دیکھنے والے کو عجیب سالگتا ہے، لیکن فطرت میں اسکی نشانی ہے، کہیں شمع جلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پروانے اس کے گرد آ کر گھونٹے شروع کر دیں گے،

اگر آپ غور کریں تو معلوم ہو گا کہ ساری مخلوق طواف کے عمل میں لگی ہوئی ہے، صرف انسان نہیں بلکہ ساری مخلوق، آسمانی مخلوق کو دیکھیں تو جتنے بھی سیارے ہیں وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، ہمارا جو شمسی نظام ہے اس نظام میں تمام سیارے، زمین، مریخ اور باقی جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں اگر باریک اسکیل پر چلے جائیں تو یہ زمین مادے سے بنی اور مادے کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ ایتم ہے اور ایتم کو اگر آپ دیکھیں تو اسکیں بھی ایک نیوکلیرس ہوتا ہے اور نیوکلیرس کے گرد الکترون گھوم رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں بھی طواف ہوتا ہے اور اس ایتم سے مل کر کے دنیا بی، زمین بی تو زمین بھی طواف میں مشغول ہے، اگر اور زیاد غور کریں تو یہ جو سورج ہے یہ خود سا کن نہیں ہے زمین کے حساب سے تو سا کن کہیں گے لیکن جب گلکلیکی کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ بھی کسی گلکلیک سینٹر کے گرد گھوم رہا ہے اور اگر گلکلیکی کو دیکھیں تو وہ اور کسی سینٹر کے گرد گھوم رہی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہی طواف کی حالت میں ہے۔

## ستاروں کا نظام طواف

اب ذرا غور سے سننے یہ عاجز امر یکہ میں تھا تو ایک دوست کہنے لگے کہ ایک اپسیں میوزیم کے اندر ڈکیومنٹری لگی ہوئی ہے آپ کے پاس وقت فارغ ہوں تو میں آپ کو نے جاؤں گا، دھاؤں گا پوچھا کیا دکھاؤ گے؟ کہنے لگے کہ ستاروں سے متعلق، تو ہمیں خیال آیا کہ ہاں علم بڑھانے کے لئے اسکو دیکھیں گے ویسے بھی

مدارس میں فلکیات کا مضمون پڑھایا جاتا ہے ہمارے اکابر نے اس پر کافی لکھا بھی ہے چنانچہ دو تین علماء اور بھی تھے ہم سب اپسیں میوزیم چلے گئے ذہن میں خیال یہ تھا کہ نہ تو وہاں کوئی موسمیقی، نہ وہاں کوئی غیر محروم عورت کا مسئلہ، ستاروں سے متعلق ایک سائنسی چیز ہے جب وہ دکھار ہے ہیں تو علم بڑھانے کے لئے اسکو تو دیکھنا چاہئے اور ایسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو تو سورج، چاند، ستاروں کا علم ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ اور ستاروں سے وہ راہنمائی پاتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے ایک ایک پوریم کے اندر آسمان کے ستارے دکھانے اور پھر ان کے انہوں نے مختلف نام بتائے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو آئیڈیا پاہے کہ اگر کوئی بندہ سمندر میں راستہ بھول جائے تو سمندر میں تو چاروں طرف پانی ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں رخ ہے؟ کہاں کیا ہے؟ تو ایسے میں وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر سمت کو بھی متعین کر سکتا ہے، اور وقت کا بھی تعین کر سکتا ہے کہ یہ وقت ہو چکا ہے، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یا کسی کو دشمن نے کسی جنگل میں ڈال دیا، صحراء میں ڈال دیا، جہاں چاروں طرف ایک جیسی ریت ہے تو وہ آسمان کے ستاروں سے راہنمائی پاسکتا ہے، ڈائیرکشن کا پتہ کر سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے بتایا کہ یہ یہ ستارے یہاں ہوتے ہیں تو اتنا وقت ہو جاتا ہے، اور یہاں ہوتے ہیں تو اتنا، وہ با تین سن کر مجھے خیال آیا کہ ہاں جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب رات کو تہجد میں اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف بار بار دیکھا کرتے تھے اس زمانے میں گھریاں کم لوگوں کے پاس ہوتی تھیں بڑے بڑھوں کے پاس گھریاں نہیں ہوتی تھیں وہ آسمان کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ اب صبح کا ذب ہو چکی، اور اب صبح صادق ہو چکی، تو میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ستارے ایسے ہیں یہ فلاں ہے یہ ستارے جب یہاں ہوتے ہیں تو اس وقت اتنا وقت ہو جاتا ہے، تو جو کچھ ہمارے بزرگ اپنی زبان

میں ستاروں کو نام دے کر سوچتے تھے انہوں نے سائنسی نام دیکھ بالکل وہی بات کر دی، لیکن آخر میں ایک بات انہوں نے عجیب کہی کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آسمان کے کچھ ستارے ساکن ہیں اور کچھ ستارے متحرک ہیں یہ غلط فہمی ہے آسمان کے سارے ستارے متحرک ہیں، فرق یہ ہے کہ جن کی اسپیڈ زیادہ ہے وہ ہمیں متحرک نظر آتے ہیں جن کی اسپیڈ کم ہیں وہ ساکن نظر آتے ہیں مگر وہ ساکن نہیں ہیں، اگر ہم ان کو ایک سال متواتر چیک کرتے رہیں تو بھی اپنی جگہ سے ہلتے ضرور ہیں، چاہے تھوڑا لمبیں، تو متحرک وہ بھی ہیں البتہ ایک ستارا ہے جو پوری کائنات میں اپنی جگہ کے اوپر ساکن ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے اسکی اسپیڈ بڑھا کر دکھائی کہ دیکھو یہ کیسے ہو گا؟ پھر جو انہوں نے ریل چلائی اور ستاروں کی اسپیڈ بڑھائی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ستارا سینٹر میں ایک جگہ تھا اور اس کے گرد سارے کھربوں کھرب ستارے گھوم رہے تھے، جب میں نے دیکھا تو اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی، میرے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کعبہ آسمانوں پر بھی ہے، اسکو بیت المعمور کہتے ہیں اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے آسمان کے فرشتے سارے اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور ایک کعبہ زمین پر ہے یہ دونوں اس طرح اوپر نیچے ہیں کہ اگر بالفرض بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکیں تو وہ زمین پر جہاں آ کر گرے گا وہ بیت اللہ کی جگہ ہو گی تو گویا جو تخلیات بیت المعمور پر اتر رہی ہیں وہی تخلیات بیت اللہ پر اتر رہی ہیں، یہ گویا نور کا ایک ستون ہے جو عرش سے لیکر فرش کے نیچے تحت اہمی تک ہے اسی میں بیت المعمور بھی ہے اور اسکے نیچے زمین پر بیت اللہ بھی ہے تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ستارا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بیت المعمور ہو، تو آسمان پر اس کے گرد فرشتے طواف کر رہے ہیں اور اگر خلاء میں دیکھیں تو انہیں تخلیات کے گرد جتنے کھربوں کھرب ستارے ہیں وہ سارے کے

سارے اسکے گرد طواف کر رہے ہیں، اور جب زمین پر یہ تجلیات پہنچتی ہیں تو اللہ کے بندے انہیں تجلیات کے گرد طواف کر رہے ہیں۔

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے

اُنکی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

سب اللہ کے چاہئے والے، ساری مخلوق ان کی تجلیات کے گرد طواف کر رہی ہے  
عالم طواف میں ہے، دنیا ہر وقت طواف میں ہے ہمیں بھی اللہ نے یہاں آ کر اس سشم کا حصہ بننے کی توفیق عنایت فرمائی۔

### اہم ترین عبادت

چنانچہ یہاں کی عبادت میں سب سے اہم طواف ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سو بیس تجلیات نازل ہوتی ہیں، رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہیں جن میں سے زیادہ تجلیات طواف کرنے والوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اور دنیا میں کہیں ممکن نہیں ہے،

چنانچہ ایک شخص نے کوئی قسم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو، اب جب بات پوری ہو گئی تو اسے سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں؟ تو وہ بالآخر امام اعظمؐ کے پاس آیا کہ حضرت میں نے تو ایسی قسم اٹھائی تھی کیا کروں؟ فرمانے لگے کہ تم جاؤ اور حرم میں جا کر لوگوں کی منت کرنا کہ وہ تھوڑی دیر کے لئے رُک جائیں اور تم اکٹلے طواف کر لینا، جب تم طواف کر رہے ہوں گے تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، یہ ایسی عبادت ہے کہ گارنی دی چاکتی ہے کہ دنیا میں یہ عبادت اور کہیں نہیں ہو رہی یہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔

### پرندوں کا طواف

اور یہ عبادت صرف انسان ہی نہیں رتے بلکہ اللہ کی دوسری مخلوق بھی ررتی ہے،  
چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ اپا بیلوں کو دیکھا جو چھوٹی چھوٹی چیزیاں ہوتی ہیں آپ شام کو

ذرا بیٹھ کر دیکھیں وہ بھی آ کر بیت اللہ کی تجلیات کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، اور ایک مرتبہ ہم نے کبوتروں کو دیکھا کہ ان کا غول آیا اور وہ غول اسی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا تھا، اور ایک مرتبہ ایک بلی کو ہم نے دیکھا، ہم لوگ طواف کر رہے تھے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، باقاعدہ جیسے ہم چکر لگا رہے تھے وہ بلی بھی ساتھ ساتھ چکر لگا رہی تھی، ہمارے ایک دوست کہنے لگے جی بلی بھی چکر لگا رہی ہے میں نے کہا بھی دیکھنے کو بلی ہے کیا پتہ کوئی جن ہو، بلی مکلف نہیں ہے کہ طواف کرے، مکلف تو یہ انسان ہیں یا جن ہیں تو ہم تو یہی سوچ سکتے ہیں کہ بھائی وہ جن بھی اس شکل میں آ کر طواف کر رہا ہوگا بہر حال طواف کر رہے ہیں یہ طواف ہر وقت ہو رہا ہے حتیٰ کے بارش کا فت ہوتا ہے تو اس وقت بھی طواف رکتا نہیں ہے لہ فرض نماز جب پڑھی جاتی ہے تو چونکہ وقت کی نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے وقت کا امراء ہم ہے اسلئے اس وقت اسکو متوقف کرتے ہیں اسکے بعد تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے طواف پھر بھی چل رہا ہوتا ہے۔

### شع مکے گرد پروانے

دن رات صبح شام ہر وقت طواف، آپ حیران ہوں گے کہ ایک مرتبہ بہت بارش ہوئی اور بیت اللہ میں سیلا بآگیا چونکہ یہ نیشنے کی جگہ ہے، تو پہاڑیوں کا سارا پانی یہیں آتا ہے تو اتنا پانی تھا کہ لوگ ڈوب جاتے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کا دروازہ تک ڈوب گیا تھا، عین اس وقت اللہ نے اپنے ایسے بندے بھیج دئے جو اس وقت بھی تیر کر بیت اللہ کا طواف کرتے رہے، جتنے دن پانی رہا تیر کر لوگ طواف کرتے رہے، طواف چلتا رہا، سجن اللہ، واہ میرے مولیٰ یعنی آپ کی عبادت ہے ایک شمع جلا دی ہے اور اس شمع کے گرد پروانے ہر وقت محو طواف ہیں۔

### افغانی بزرگ کا نان اسٹاپ طواف

ہم نے ایک افغانی بزرگ کو دیکھا بالکل معذور بیوڑھے سے تھے وہ دیل جیر

(WheelChair) پر بیٹھے ہوتے تھے اور سر جھکا ہوا ہوتا تھا ان کا کام سارا دن طواف حتیٰ کے اب وہ ولی چیر (WheelChair) پر بیٹھے تو کوئی ایک طواف کرواتا ہے، کوئی دو طواف کرواتا کوئی تین طواف کرواتا، اب دو طواف میں چودہ چکر، تین طواف کے اکیس چکر، تو لوگ تھک جاتے تھے ایک چھوٹتا تھا دوسرا ان کی ولی چیر لے لیتا تھا، تیرا لے لیتا تھا، چوخا لے لیتا تھا، ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ کوئی مرد چلانے کے لئے نہیں تو اللہ نے کسی عورت کے دل میں بات ڈال دی وہ بر قعہ والی عورت انکی کری دھکیل رہی ہوتی، اور ان کو طواف کروارہی ہوتی تھی اور کئی دفع بچے ان کی کری دھکیل رہے ہوتے اور ایسا بھی دیکھا کہ جب کوئی بھی ان کی ریڑھی دھکینے والا نہ ہوتا تو پولیس والیں انکو طواف کروار ہے ہوتے تھے وردی پہنی ہوئی ہے ار وا نکو دھکیل کر طواف کروار ہے ہیں، ان کے طواف بھی نان اشآپ (Non-Stop) ہوتے تھے، اور جب بھی کوئی بھی ان کو طواف کروانے والا نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بس اپنے پاؤں کو تھوڑا زمین پر رکھ کر گھستتے تھے اور انچ انچ اپنی ریڑھی کو وہ آگے کرتے تھے جب اس حالت میں ان کو لوگ دیکھتے کہ اب بھی یہ طواف کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بندے کے دل میں ڈال دیتے تھے، وہ انکو طواف کروادیا کرتے تھے سارا دن طواف کرتے تھے۔

## روزانہ ستر طواف کا معمول

چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ستر سال کی عمر تھی اور اس وقت ان کا روزانہ کا معمول ستر طواف کرنے کا تھا، ستر طواف کا کیا مطلب بھائی؟ چار سو نوے چکر بیت اللہ شریف کے، چار سو نوے چکر کو گنو، تو تقریباً کوئی بارہ تیرہ کلو میٹر کا سفر بن جاتا ہے، اب بارہ تیرہ کلو میٹر کوئی آسان کام نہیں ہے یہ تو کوئی دیہاتی چال سکتا ہے جو بلی چلدا تا ہو، ورنہ نام آدمی تو نہیں چال سکتا ہے، اور یہ ان کا روزانہ کا ایک عمل تھا اور ہر طواف کے دور کنت نفل تو ایک سو چالیس رکعت نفل، اور ایک

سوچا لیں نفل پڑھنے کوئی آسان ہیں، ہم تو دس رکعت پڑھ لیں تو ہمارا حال برا ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی لمبی رات ہوا اور اگر پچاس رکعت پڑھ لیں تو اگلے دن گھر میں کر فیول گا ہوا ہوتا ہے، رات عبادت میں گذاری ہے بچہ نہیں بول سکتا، یہوی بچوں کی منتسب کر رہی ہوتی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہوتی ہے، خدا کا واسطہ شورشہ مجاو تمہارے ابو ناراض ہوں گے گھر میں کر فیو کا سماں ہوتا ہے، کیوں؟ ہم نے رات میں جو پچاس رکعت نفل پڑھے، اور وہ بزرگ ایک سوچا لیں رکعت روزانہ نفل پڑھتے تھے، میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ آج ہم پچاس رکعت کی نیت کر لیں تو پچاسویں رکعت پڑھنچیں گے تو ہماری حالت یہ ہو گی کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے "سُعَدَ اللَّهُ كَيْ جَلَّ أَوْلَى اللَّهُ نَكْلَ رِبَّاَ بُوكَا، اور وہ بزرگ ایک سوچا لیں رکعت روزانہ پڑھتے تھے اور یہ انکا ایک عمل تھا باقی روز کی عبادت اسکے علاوہ تھیں یہ آسان کام نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے یہ نعمت عطا فرمادیتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔

## پچھے راستے اور پکے مسافر

ہمارے اکابرین بڑی مختوقوں کے بعد آتے تھے اب تو ہمارا عمرہ پندرہ دن کا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں حج کا سفر چھ مہینہ کا ہوتا تھا، رمضان سے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا، اور رمضان سمندر میں آیا کرتا تھا، حج کرتے ہوئے چھ چھ مہینہ لگ جاتے تھے، مشقوں کا سفر کر کے آتے تھے اور اب تو چار گھنٹے میں اپنے ملک سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، مگر پہلے زمانے میں راستے کچے تھے مسافر کے تھے آج راستے کچے ہو گئے اور مسافر کچے ہو گئے۔

## آج کی سہو لتیں

ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم سفیہۃ الجان کے ذریعہ سے جب چنپتے تھے توجہہ سی پورٹ (See-Port) کے اوپر جب جہاز لگتا تھا تو تمام لوگوں کو تین

دن تک جہاز کے اندر ہی رکھا جاتا تھا کہ ان پر کوئی وائرس (Virus) نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو جو ہمارے ملک میں آجائے لہذا تمین دن یہیں رہیں، ہم اپنی آنکھوں سے جدہ کی زمین کو دیکھتے تھے، ساحل کو دیکھتے تھے مگر تمین دن ہم جہاز کے اندر رہتے تھے، یہیں زمین پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی،

اور آج ماشاء اللہ جہاز لینڈ کرتا ہے اور اسکے ایک دو گھنٹوں کے اندر اندر ہم ایر پورٹ سے نکل کر باہر ہو جاتے ہیں، اور ایر کنڈیشن ایئر پورٹ، اور ایر کنڈیشن بیٹھنے کی جگہ، مختنڈا پانی موجود، باہر ہر چیز موجود، چائے کے لئے جگہیں موجود اور پھر ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا وقت لگ جاتا ہے، ذرا سوچیں کہ آج جدہ سے مکہ مکرمہ تک دوسرا دو گھنٹے کا فاصلہ ہے عام حالات میں دوسرا دو گھنٹوں میں یہاں پہنچتے ہیں، پہلے وقت میں جدہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ تمین دن کا فاصلہ ہوا کرتا تھا، یہ تقریباً کوئی ساٹھ میل کے برابر جگہ بنتی تھی اور یہیں میل کا سفر اونٹوں پر روزانہ ہوتا تھا اور ہم تو بالکل سیدھی (پلیں) روڈ کے اوپر چل کر آتے ہیں، جو پہاڑیوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں، جب پہاڑیاں موجود تھیں تو پہاڑ کے اوپر چڑھتے تھے اور دوسری طرف سے نیچے اترتے تھے، پھر پہاڑی پر چڑھو پھر نیچے اتر و پھر چڑھو پھر اترو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم اونٹ کرتے پر لیتے تھے مگر کئی لوگ اونٹ کا کرایہ بھی نہیں دبے سکتے تھے تو سامان فقط اونٹوں پر رکھ لیتے تھے اور خود تمین دن رات پیدل ساتھ چل کر جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچا کرتے تھے، اور تمین دن کا پانی بھی ساتھ رکھنا پڑتا تھا کہ راستے میں پانی کی جگہ بھی نہیں تھی اب تمین دن وضو کا پانی، طہارت کا پانی، پینے کا پانی، جانوروں کے پینے کا پانی میرے خیال میں ٹھوں کے حساب سے تو پانی ہی بن جاتا ہو گا اتنی مشقتوں سے بیت اللہ پہنچتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی محبت دل میں ہوتی تھی، تقویٰ تھا اسلئے ان کا بیت اللہ پہنچانا کے لئے عید ہوا کرتا تھا۔

## کعبہ کی دید، ہی ہماری عید

کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت عید کب ہوگی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بھائی جب دید ہوگی تب عید ہوگی یعنی جب محبوب کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی تو ہمارے بزرگ اتنی محبت کے ساتھ آتے تھے کہ جب وہ کعبہ کی دید کرتے تھے پھر ان کی عید ہو جایا کرتی تھی۔

## سولہ دن میں سولہ قرآن

حضرت مرشد عالم فرمانے لگے کہ ۱۹۳۰ سے پہلے (تیل نکلنے سے پہلے) اتنی غربت تھی کہ کوئی حد نہیں، ہم مکہ مکرہ سے مدینہ طیبہ جاتے تھے تو سولہ دن لگتے تھے اور آج مکہ مکرہ سے بس میں بیٹھیں تو پانچ چھ گھنٹے کے بعد مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں، اس وقت سولہ دن لگتے تھے، چنانچہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بھورے اونٹ پر ایک قافلے کے ساتھ یہ سفر طے کیا تو سولہ دن لگے، اور سولہ دن میں میں نے سولہ مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کر لیا، آج مکہ مکرہ سے مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں درمیان میں سورہ یسین بھی نہیں پڑھ پاتے۔

## دیہاتی کی شدید بھوک

ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرہ سے مدینہ طیبہ جاری ہے تھے تو راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑا ڈالا، تو وہاں ایک بوڑھا آگیا، جو دیہاتی تھا، اس نے آکر اشارہ کیا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو میں نے اپنی الہیہ سے کہا اسکے لئے کچھ کھانا بنادو تو میری الہیہ نے پانی اور آٹا نکالا کہ روٹی پکا کر دے تو اس نے جیسے پانی اور آٹا دیکھا تو وہ دیہاتی آگے بڑھا اور جگ میں سے ایک پیالے میں پانی ڈالا اور ایک مٹھی آئی کی بھر کر اس پانی کے اندر ڈال دی اور اسکو ہلا کر پی لیا، اسی طرح کچھ کھا آٹا اور پانی پینے کے بعد کہنے لگا کہ اب میں روٹی کے پکنے کا انتظار کر

سکتا ہوں اتنی شدید بھوک تھی۔

## تر بوز کے چھلکوں کی قدر

ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جب مکہ مکرمہ میں رہتے اور تربوز یا خربوزہ کھا کر اس کے چھلکے پھینکتے تو مقامی بچے آپس میں جھگڑتے تھے کہ یہ چھلکا کون اٹھائے گا وہ چھلکے اٹھاتے اور چھلکے کھاتے اور کئی مرتبہ چھلکے گھر لے جاتے تو ان کی والدہ تربوز کے چھلکے کو کاش کر سالن کے طور پر پکایا کرتی تھیں، چند بچے تربوز کے چھلکے اسی طرح لے جاتے رہے، ایک دن میں نے دو تین تربوز خریدے اور ان بچوں میں کاش کر تقسیم کر دئے، وہ دن بچوں کے لئے بہت خوشی کا دن تھا کہ تربوز کھار ہے تھے، ان میں سے ایک بچے نے عجیب بات کہی کہنے لگا کہ ہم نبی ﷺ کے احسان مند ہیں اگر وہ یہاں تشریف نہ لاتے تو کون حج اور عمرہ کرنے کے لئے یہاں آتا اور ہمیں تربوز کھانے کا موقعہ کہاں نصیب ہوتا؟ ہم نبی ﷺ کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ان کی برکت سے آج لوگ آتے ہیں اور ان حاجیوں کی وجہ سے ہمیں تربوز کھانے کو مل جاتا ہے۔

## بچہ کے دل میں بیت اللہ کی محبت

حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کے لئے حاضر ہوئے تو ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے خیمہ میں آتا تھا، میری الہمیہ اسکو کچھ بجا ہوا کھانا دے دیتی بھی روئی، عجھی سالن، کبھی کوئی پینے کی چیز اور کبھی پھل وہ چھوٹا سا بچہ بڑا مانوس ہو گیا حتیٰ کے جب جانے کا وقت آیا تو میری الہمیہ نے اسکو بتایا کہ ہم تو کچھ دنوں میں چلے جائیں گے تو وہ بچہ بڑا افسوس سا کرنے لگا جب جدا ہی کا وقت قریب ہوا تو اس بچے کے چہرے پر جدا ہی کا غم صاف محسوس ہوتا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ میری الہمیہ نے اسے کہا کہ تک بھر چلے جائیں گے تو وہ پاٹکل رونے جیسا ہو گیا، جب میری الہمیہ نے اسکی یہ حالت دیکھی تو اسے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ اگر آپ ہمارے ساتھ

چلو تو ہم آپ کو اپنے ملک لے جائیں گے اور یہاں تو بھلی بھی نہیں، وہاں بھلی کے پکھے ہیں، اتنی گرمی بھی نہیں، کھانا بھی ہے، پھل بھی ہیں، ہر چیز ہے ہم آپ کو وہاں پر رکھیں گے، اچھے کپڑے پہنا جائیں گے، پڑھا جائیں گے، سہولت ہوگی، تو ہمارے ساتھ چلو، جب ہماری اہلیہ نے اسکو یہ کہا تو غور سے وہ ساری باتیں سنتا رہا، تو اہلیہ نے کہا کہ پھر ہمارے ساتھ چلو گے؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ وہاں اتناب سپکھ ہو گا کیا وہاں بیت اللہ بھی ہو گا؟ تو اہلیہ نے کہا کہ نہیں وہاں بیت اللہ تو نہیں ہو گا تو چھوٹا بچہ کہنے لگا اگر وہاں بیت اللہ نہیں ہو گا تو مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،

پہلے راستے کچے ہوتے تھے مسافر کے ہوتے تھے، آج راستے کے بن گئے مسافر کچے بن گئے، تو ہم بھی یہاں آکر اس وقت کی اہمیت کو پہچانیں، اور اللہ سے مانگیں، جو بھی نعمت مانگیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گی، ہم اپنی زندگی کا بہترین وقت گذار رہے ہیں۔

### اپنا وقت کیسے گزاریں

سالم بن عبد اللہ ایک بزرگ تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے کہ حاکم وقت آگیا وہ ان سے ملا اور کہنے لگا کہ کوئی کام میرے لئے ہو تو میں کر سکتا ہوں، تو جیسے ہی اس نے یہ پوچھا تو وہ فرمانے لگے دیکھو بھائی میں تو یہاں حرم میں ہوں، اب حرم میں بھی میں آپ سے مانگوں گا؟ بھائی حرم میں تو ہم حرم کے پور و گار سے مانگیں گے، ﴿فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ اس گھر کے رب سے مانگیں گے، تو وہ حاکم چپ ہو گیا، حضرت نے طواف کمل کیا اور حرم سے باہر نکلے وہ انتظار میں تھا، وہ پھر چیچھے آگیا اور کہا کہ اچھا اب بتا میں؟ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ بہاؤ میں آپ سے دین مانگوں؟ یا دنیا مانگوں؟ اب وہ دین تو کہہ نہیں سکتا تھا چونکہ دین میں تو سالم بن عبد اللہ اپنی

مثال آپ تھے، اپنے زمانے میں بڑے مقامی بزرگ تھے، توہ کہنے لگا کہ نہیں آپ مجھ سے کوئی دنیا کی چیز مانگیں تو حضرت نے فرمایا کہ جس پروردگار نے دنیا کو بنایا اس سے میں نے دنیا بھی نہیں مانگی میں آپ سے دنیا کیا مانگوں گا؟ تو دیکھو ہمارے انکابر ایسی کیفیت کے ساتھ آتے تھے، اور یہاں آکر بیت اللہ کے پاس اپنا وقت گزار تے تھے اور نعمتیں سمیٹ کر لے جاتے تھے، مقدروں کے فیصلے کروا کر جاتے تھے، اسی لئے جب وہ آتے تھے تو ان کے ایک سفر کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے آج ہم عمرے کے سفر پر آتے ہیں اور خود پکے مسلمان ہو کر واپس نہیں جاتے

کعبہ بھی گئے پرنہ گیا عشق بتوں کا

زمزم بھی پیا پرنہ بھی آگ جگر کی

زمزم بھی پیتے ہیں لیکن جو عشق مجازی والی ایک نفسانی و شیطانی آگ لگی ہوتی ہے وہ نہیں بھتی اسکے لئے تو پھر نفس پر چھری پھیرنی پڑتی ہے یہاں آکر اپنے نفس کو ذبح کرنا پڑتا ہے خواہشات کو ذبح کرنا پڑتا ہے عہد کرنا پڑتا ہے کہ اے اللہ سب لات و منات توڑ دئے میں نے

تَرْكُثُ الْلَّاتِ وَالْعُزْيِيْـا

كَذَالِكَ يَقْعُلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ

بصارت رکھنے والا ہر انسان ایسے ہی کیا کرتا ہے بتوں کو توڑ دیتا ہے  
بتوں کو توڑ تخلیل کے ہوں کہ پھر کے

ان اچھی کیفیات کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں اور پھر ہاتھ انداختا کر دعا مانگیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں، دن میں طواف کریں رات میں طواف کریں،

اب ایک چیزوں میں رکھیں کہ طواف وہی طرف سے با میں طرف کیا جاتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو قانون فطرت بھی یہی ہے زمین اپنے محور کے

گرد جو گھوم رہی ہے، تو دا میں سے با میں گھوم رہی ہے، مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے، بھی تو مشرق کی طرف سورج طلوع ہوتا ہے، اور نبی ﷺ نے بھی فرمایا کہ ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے ہی شروع کرو اور اسی لئے اگر مجلس میں بہت سارے لوگ ہوں تو جو سر حلقة ہے اسکو پہلے پانی پلاو، اور پھر اسکے دائیں طرف سے سب کو پلانا شروع کرو، اللہ تعالیٰ یہیں کو پسند فرماتے ہیں، طواف میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ یہیں سے ہم یہاں کی طرف آتے ہیں، تو یہ ایک فطرتی معاملہ ہے ایک بات اور ذہن میں رکھئے کہ طواف کے ان چکروں میں ہم اللہ سے دعا مانگیں، جو دعا مانگیں گے اللہ کی طرف سے قبول ہوگی، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جائیں تو ہم دعا مانگیں اللہم انی فقیر ببا بک سائلک ببا بک تیرافقیر، تیرا سائل، تیرے دروازے پر حاضر ہے، میرے مولیٰ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دیر سے آیا ہوں۔

گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کرا سے پایا

چھوٹے نا الہی اب سنگ در جانا نا

اس در کو پکڑا ہے اے اللہ، اب اس در کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اب تیرے در پر ہی جھکیں گے۔

تمہیں سے مانگیں گے تمہیں دو گے

تمہارے در سے ہی لوگی ہے

تو ہم اللہ رب العزت کے گھر میں ہیں طواف کریں اور اللہ سے مانگیں اور طواف کے دوران اپنی نگاہ کی حفاظت کریں نیچے دیکھیں حتیٰ کے غیر محروم کے کپڑے پر بھی نظر نہ پڑے، اسکے جسم پر نظر پڑنا یا چہرے پر نظر پڑنا تو بہت دور کی بات ہے کپڑے پر بھی نظر نہ پڑے اس طرح ایک خاص کیفیت میں ہر چیز سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر طواف کریں، اللہ تھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ادھر ادھر مشغول ہونے کے بجائے میری طرف متوجہ رہے۔

## مرد و عورت کا طواف ایک ساتھ کیوں؟

ایک خیال بھی کبھی ذہن میں آتا تھا کہ شریعت نے مرد اور عورت کی جو تفریق ہے اسکو ایسا کیا کہ مرد مردوں میں رہیں اور عورتیں عورتوں میں رہیں، مرد اور عورت تب قریب آئیں جب وہ محرم ہوں اسی لئے پرده کا حکم دیا حتیٰ کے فرض نماز پڑھنی ہے تو شریعت نے کہا کہ مردوں کی صفتیں آگے بینیں عورتوں کی صفتیں پچھے بینیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی ﷺ جب نماز پڑھاتے تو باب النساء بالکل پچھے تھا تو آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لئے ذکر واذ کار فرماتے تھے، تاکہ اس دوران جو عورتیں حاضر ہوتیں وہ پہلے چلی جاتی تھیں اور بعد میں مرد نکلا کرتے تھے مردوں عورتوں کا ایک وقت میں لکھنا بھی پسند نہ فرمایا، جب مسجد بنوی میں باب النساء بنوایا تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ کاش مرد دوسرا دروازے سے جائیں عبد اللہ ابن عمر نے یہ بات سن لی فرماتے ہیں کہ اسکے بعد پوری زندگی عام وقت میں بھی اگر باب النساء قریب ہوتا تو بھی میں باب النساء سے نہیں گذرتا تھا کہ میرے آقا نے فرمادیا کہ مرد دوسرا دروازے سے داخل ہوں، وہ اتنا خیال رکھتے تھے، اور فرمایا کہ مرد راستوں کے درمیان میں چلیں اور عورتیں راستوں کے کناروں پر چلیں صحابیاتؓ فرماتی ہیں، میں اگر گلی میں سے گذرنا ہوتا تو ہم گلی کے اتنے کنارے پر چلتیں کہ ہمارے بر قعے چاروں کے کپڑے دیوار کے ساتھ پھنس جایا کرتے تھے یعنی اتنا دیوار کے قریب سے ہو کر گذرتی تھیں، مرد الگ عورتیں الگ، اب جب یہ اصول ہے پوری شریعت میں تو یہی اصول طواف میں بھی ہو سکتا تھا مردوں کو کہہ دیا جاتا کہ تمہارا طواف دن میں، عورتوں کو کہہ دیا جاتا کہ تمہارا طواف رات میں، عورتیں رات کو جا کر طواف کر لیتیں اور مرد دن میں طواف کر لیتے، مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی وقت تقسیم کیا نہ کوئی جگہ تقسیم کی بس نماز کا وقت نہ ہو، اگر فرض نماز ہے تو پھر نماز افضل ہے ورنہ اسکے سوا ہر وقت عورت بھی

چاہے طواف کر سکتی ہے مرد بھی چاہے طواف کر سکتا ہے گوفقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کنارے پر طواف کریں اور مردانہ رکریں مگر طواف تو ہر وقت ہی ہو سکتا ہے مرد کرے یا عورت کرے۔

یہاں آکر یہ الگ الگ کیوں نہیں کیا گیا کئی دفعہ ذہن میں یہ سوال آتا تھا تو پھر جا کر حقیقت سمجھ میں آئی کہ پہلی بات تو یہ کہ اس جگہ کو اللہ نے حرم بنایا اور حرم کی وجہ سے اسکی عزت اتنی بڑھائی کہ باہر تم گناہ جب تک کرنے لوٹ تک سزا نہیں دیں گے مگر حدود حرم میں تم گناہ کا دل میں ارادہ بھی کرو گے تو بھی ہم تمہیں سزادیں گے ایک تو پابندی سخت کر دی ﴿وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِبَظْلِمٌ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں میرے گھر کا طواف کرنے کے لئے آئے ہیں تو اب یہ میری محبت میں اتنا ڈوب کر طواف کریں کہ ان کو ایک دوسرے کی طرف دھیان ہی نہ رہے

رخ زیبا کے آگے شمع روکھ کرو یہ کہتے ہیں

اوہر آتا ہے یاد بکھیں اوہر جاتا ہے پرانہ

اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ کر دیا کہ میں ذرا یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دل ان کا کہاں ہے؟ مخلوق میں یا خالق میں، میری محبت کے دعوے کر کے آئے، میری محبت کے متلاشی بن کر آئے، اب میرے گھر میں آگئے ہیں، اب میں تمہیں میثک کرتا ہوں، آؤ ذرا طواف کرو اور اکھا طواف کر کے دکھاؤ لیکن ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ طواف میں جاتے ہیں مردا پنی مردا نگی بھول جاتے ہیں، اور عورتیں اپنی نسوانیت بھول جاتی ہیں، ہم نے دیکھا طواف کے دوران مرد بھی ہچکیاں لے کر روتا ہے، اور عورت بھی رورہی ہوتی ہے، مرد بھی آنسو بہار ہاہے عورت بھی آنسو بہار ہی ہے، اس نے بھی کہا یا رب یا رب، اس نے بھی کہا یا اللہ یا اللہ، جب دونوں ترپ ترپ کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ فرشتوں نے منظر دکھاتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے یہ جا کر فساد چاہیں گے، خون بہا میں گے میرے ان بندوں

کو بھی دیکھ لومرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ان کے جسمانی تقاضے بھی ہیں، نفس ایک دوسرے کی طرف متوجہ بھی کر سکتا ہے مگر نہیں، اب مرد اپنی مرداگی بھول گیا اور عورت اپنی نسوانیت بھول گئی میری محبت نے ایسے غلبہ پالیا کہ سب میری محبت میں میری طرف متوجہ ہیں مجھے ہی پکار رہے ہیں، دیکھو مرد بھی میری محبت میں رونے والے، عورتیں بھی میری محبت میں رونے والیاں، یہ میرے عشاق کا مجمع ہے ایک دوسرے کی محبتیں بعد کی بات تھی، اصل میری محبت تھی جو دلوں پر غالب تھی اور یہاں آ کر اس نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ یہ منظر شاید فرشتوں کو دکھاتے ہوں گے فرشتوں کو دکھانا تھا بشاریے بھی ہوتے ہیں

میرے ایسے بھی توبندے ہوتے ہیں آنکھ اٹھا کر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں آنکھ جھکی ہوئی ہے پر نم ہے دل اللہ سے جڑا ہوا ہے پکار رہا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے رب اغْفِرْ رَبْ اغْفِرْ اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ کوئی ان کا پروردگار ہے جب جب میرے بندے اس محبت کے ساتھ میرے گھر کا طواف کرتے ہیں میں ان بندوں کی اس محبت کو قبول کر کے ان بندوں کے سب پچھلے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہوں۔

### روحانی واشنگ مشین

یہ طواف کا عمل ہے پہلے زمانے میں بات سمجھنی ذرا مشکل تھی آج کے زمانے میں سمجھنی آسان ہو گئی ہے، پہلے عورتیں کپڑے ہاتھ سے دھویا کرتی تھیں، آج کل واشنگ مشین آگئی واشنگ مشین کیا ہوتی ہے میلے کھلے گندے کپڑے آتے ہیں ان کو مشین میں ڈال دیتے ہیں چند چکر لگاؤ اک ساری میل نکال کر انکو باہر کر دیتی ہے،

بس یوں لگتا ہے یہ کعبۃ اللہ بھی ایک بڑی واشنگ مشین ہے گناہوں سے گندے ہو کر بندے آتے ہیں اسکے گرد سات چکر لگاتے ہیں اسکی برکت سے اللہ

تعالیٰ دلوں کو صاف کر کے باہر نکال دیتے ہیں، دلوں کے لئے ایک روحانی واشنگ  
میشین ایسی بنادی، میرے بندوں تم لمحڑے دلوں کو لے کر آؤ گے اپنے آلودہ دلوں  
کو لے کر آؤ گے میرا اگھر یہ روحانیت کی ایسی واشنگ میشین ہے میں تمہیں طواف میں  
جب ڈالوں گا بس سات چکر لگوائے سب گناہوں کو دھو کے صاف دلوں کو باہر  
نکال دوں گا اللہ رب العزت ہمیں صحیح محبت کے ساتھ اچھے انداز سے طواف  
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اُمیدیں لاکھوں میں لیکن طبی اُمید ہے یہ  
کہ ہو سگانِ مدینہ میں میرا نام شمار  
جیوں تو ساتھ سگانِ حرام کے تیرے پھر  
مُرُول تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مو رو مار  
اڑا کے باد مری مُشت خاک کو پس مرگ  
کرے حضور کے روضے کے آس پاس شار

اقتبس قصیدہ باریہ جو جمیلہ اسلام نافر

ماخذ فضائل و درشريفۃ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا مہاجر مدینی نقۃ الرائدۃ  
مدون جنت العقیع لہو فی ۲۹ جولائی ۱۳۷۲ھ میں ۱۹۸۲ء بیان  
کتبہ فتح نفیس میں ۱۴۰۲ھ

﴿هُوَ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ﴾

# تمناے دیدار بیت اللہ

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

## فہرست عنوانین

شمار	عنوانین	صفحات
۱	تصور کی آنکھ سے بیت اللہ کا دیدار	۳۲
۲	گوالہ کی سچی طلب کا عجیب واقعہ	۳۳
۳	حج کس بنیاد پر ہوتا ہے؟	۳۹
۴	عبرتاک واقعہ	۴۰
۵	بار بار حج عمرہ کیسے نصیب ہو؟	۴۱
۶	پلکوں کے مل اللہ کے گھر کی حاضری	۴۲
۷	رابعہ بصریہ کا عارفانہ جواب	۴۳
۸	ایک اپاہج کا عاشقانہ حج	۴۴
۹	زندگی کا انمول وقت	۴۵
۱۰	تجلیات الہی کا طواف	۴۶
۱۱	مرشد عالم کا طرز تلاوت	۴۶

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

## اقتباس

ہمارے اکابرین سالوں دعائیں مانگتے تھے اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب آنے لگتے تھے تو گھر کے برقن بھی بیچنے پڑتے تھے، زیور بیچنے پڑتے تھے پھر جا کر کہیں خرچہ پورا ہوتا تھا اور یہاں تک پہنچتے تھے، ہم پر اللہ رب العزت کا لکنا بردا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یہاں آسانی کے ساتھ پہنچا دیا۔

یہ عاجز جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق اعمال سے ہے، مال سے نہیں ہے اسلئے کہ اگر مال کے زور پر کوئی کہے کہ حج کروں گا، عمرے کروں گا تو پھر دنیا کے مالدار لوگ سب سے زیادہ حج اور عمرہ کرنے والے ہوتے مگر ایسا نہیں ہے۔

﴿از افادات﴾

حضرت مولانا پیر  
حافظ ذوالفقار احمد صاحب  
نقشبندی مجددی زید مجده

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، أَمَّا بَعْدُ!

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

تصور کی آنکھ سے بیت اللہ کا دیدار

اس عاجز کو اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ اپنی والدہ صاحبہ کو دیکھتا کہ جب بھی وہ نماز پڑھتیں تو ہر نماز کے بعد وہ ان کے پاس جو ایک تسبیح تھی اس میں ایک آنکھ بند کر کے دیکھتی رہتیں، تو جب دیکھ جکتی تو میں کہتا کہ امی مجھے بھی دکھائیں تو وہ مجھے بھی دکھاتیں دراصل اس تسبیح کے اندر اس زمانہ میں بیت اللہ کی چھوٹی سی تصویر ہوتی تھی جو ایک طرف سے آنکھ بند کر کے دیکھتے تھے تو نظر آتی تھی، تو اسی بہت دیر تک بیٹھ کر اس کو دیکھتی رہتی تھیں، تو اس زمانہ میں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے بس اتنا پتہ چلتا تھا کہ مسجد جیسی کوئی جگہ ہے، یہ ان کے دل کی ایک ترب تھی کہ وہ تصویر کی آنکھ سے دور بیٹھے اللہ کے گھر کو روزانہ دیکھتی تھیں اور پھر دعا میں مانگتی تھیں کہ اللہ اس گھر تک پہنچنا آسان کر دے، ابتداء میں مالی وسائل نہیں تھے کہ وہ پہنچ پاتیں مگر محبت کا جذبہ بالآخر نگ دکھاتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے گھر تک آنے کا ان کے لئے راستہ کھول دیا جب بیت اللہ کو دیکھا تب بات سمجھ میں آئی کہ زندگی کے سالوں اسکی یاد اور ترب میں انہوں نے اپنے گھر میں گزار

دے تو یہاں آنے کے لئے تو لوگ زندگی کے کئی کئی سال ترپتے ہیں تب جا کر کہیں راستہ کھلتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے راستے کھول دیتے ہیں۔

## گوالہ کی سچی طلب کا عجیب واقعہ

حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلویؒ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے اور مفسر قرآن بھی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے وہ لا ہور کے ایک گوالے کا واقعہ سنایا کرتے تھے؛ گوالہ کہتے ہیں اس آدمی کو جس نے بھیسیں پالی ہوں اور ان سے دودھ لیتا ہو، فرماتے تھے کہ لا ہور کا ایک نوجوان تھا اسکے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں لیکن اسکے پاس وسائل نہیں تھے، ہمیشہ دعا مانگتا، روتا ترپتا، حج کا موسم آتا اور گذر جاتا اور اسکی ترپ میں اضافہ کر جاتا، ہر سال اسکی ترپ پہلے کی نسبت بڑھتی جاتی، ایک مرتبہ تو اس نے تھانہ ہی لی کہ میں نے اب اللہ کے گھر کو جا کر رہنا ہے، نہ تو اسکے پاس کاغذات تھے، نہ پاسپورٹ تھا، بلکہ بحری راستے یہ وہ زمانہ تھا جب حج کے لئے ہوائی راستے سے نہیں آیا جاتا تھا، بلکہ بحری راستے تھے ایک جہاز تھا جس کا نام ”سفینۃ الحجاج“ تھا وہ کراچی سے چلتا تھا اور حاجیوں کو لے کر جدہ آتا تھا، ملک کے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پہنچنے نہیں تھا کہ حج کے لئے کہاں سے جاتے ہیں، بہر حال اس نے تو کہنا شروع کر دیا کہ میں نے حج کو جانا ہے، کیسے جائیں؟ کچھ پہنچنے نہیں، اس نے سنا کہ کچھ عرصے کے بعد حج کا وقت آنے والا ہے، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ حج کو کہاں سے جاتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا کہ میاں! لا ہور کے ریلوے اسٹیشن سے ٹرین چلتی ہے جو کراچی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے جہاز چلتا ہے جو جدہ جاتا ہے چنانچہ وہ لا ہور کے اسٹیشن پر پہنچ گیا کبھی اس پلیٹ فارم پر بھی اس پر، کبھی مسافروں سے پوچھ رہا ہے، کبھی کسی کام کرنے والے گورمنٹ کے بندے سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے، کئی دن اسکو پلیٹ فارم پر ہی گذر گئے، ہلکت تو تھی نہیں کہ کوئی لے جاتا اور یہ جانا

چاہتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کندکڑ نے رُڈ کو اس پر ترس آگیا وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں سواریوں والے ڈبے میں تو بھانہیں سکتا اس لئے کہ نکٹ نہیں ہے، آؤ میرے ڈبے میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں کراچی اتار دوں گا تو کندکڑ گارڈ نے اسکو اپنے والے ڈبے میں جہاں چھوٹی سی جگہ تھی بھالیا، یہ بیٹھا رہا باہم اخراج کراچی ریلوے اسٹیشن پر اتر گیا پھر وہاں پلیٹ فارم پر پوچھنا شروع کر دیا کہ میں نے حج کیلئے جانا ہے کہاں سے جاتے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ میاں ایک جگہ ہے جس کو مدینہ الحجاج، کہتے ہیں حاجی لوگ سب وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کے کاغذات تیار کئے جاتے ہیں اور ان کو جہاز پر لے جایا جاتا ہے، اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مدینۃ الحجاج جانا ہے، اللہ کی شان کہ کچھ سوار تھے جو ریلوے اسٹیشن سے اتریں اور مدینۃ الحجاج جا رہے تھے ان کے پاس گنجائش تھی انہوں نے اسکو بھی کہا کہ آؤ ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، انہوں نے اس کو مدینۃ الحجاج اتار دیا اب وہاں پر تو ہزاروں لوگ تھے جو حج میں جانے کی تیاری کر کے آئے تھے اس زمانہ میں وہیں پر پاس پورٹ بناتا تھا، کاغذات تیار ہوتے تھے، نکٹ ملتی تھی اور جن کے کاغذات تیار ہو جاتے تھے ان کو وہیں سے جہاز پر بٹھا دیا جاتا تھا، اب یہ کہتا جا رہا ہے کہ میں نے رجح کو جانا ہے، لوگوں نے کہا کہ تیرے پاس پاس پورٹ ہے؟ نہیں، نکٹ کے پیسے؟ نہیں، کوئی اور چیز؟ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، اور جانا کہاں ہے؟ کہتا ہے اللہ کا خر دیکھنے، لوگ بڑے حیران کہ یہ نوجوان کیسے جا سکتا ہے؟ حتیٰ کے وہ دن آیا کہ جن لوگوں کے کاغذات تیار تھے ان کو جہاز پر بٹھایا جانے لگا اس نے دیکھا کہ ان کا سامان لے جانے کے لئے مزدور ہیں جو نیچے سے سامان اٹھا کر بھری جہاز کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں، انہوں نے خاص قسم کی وردی پہنی ہوئی ہے، اب یہ بھی منظر دیکھ رہا تھا اس نے یہ کیا کہ ان میں سے ایک نوجوان سے بات کی کہ اپنی وردی مجھے دے دو اور تم بیٹھ کر آرام سے مزے کرو اور تمہاری جگہ یہ بھاری بھاری سامان اٹھا کر میں لے جاؤں گا اور جب آخری دفعہ وہاں سامان پہنچے گا تو اپر سے میں

تمہاری وردی دوسرے لڑکے کے ہاتھ واپس بھجوادوں گا، اس نوجوان نے کبھی سوچا کہ چلو یہ آٹھ گھنٹے جو مجھے اتنا بھاری سامان سر پر اٹھا کر لے جانا ہے آج مزے کرو بیٹھ جاؤ، اس نے اپنی وردی اسکو دے دی اب یہ نوجوان حاجیوں کا سامان اوپر پہنچا رہا ہے آرہا ہے اور جارہا ہے، کیوں کہ یہ مزدور کام کرنے والے تھے تو انکے کاغذات کی چینگ نہیں ہوتی تھی جب آخری دفعہ یہ اوپر سامان لیکر گیا وہاں جا کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے اور وہ وردی دوسرے لڑکے کے ہاتھ نیچے پہنچا دی، اور اوپر تو جہاز میں پورا ایک محلہ آباد ہوتا تھا ہزاروں لوگ ہوتے تھے کسی کو پہنچنے میں چلتا تھا، جو چینگ ہوتی تھی وہ چڑھنے سے پہلے نیچے ہی ہوتی تھی، چڑھنے کے بعد تو کوئی چینگ نہیں، چنانچہ وہاں کبھی یہ ادھر بیٹھ جاتا۔ کبھی ادھر بیٹھ جاتا کبھی کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگتا، لوگ سمجھتے کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گیا ہے تو باہر آ گیا ہے اور کبھی لوگ باہر سمند کا نظارہ کرتے رہتے تھے اس طرح اس نے سفر کرتے کرتے بالآخر درمیان کے دن گزار دئے، ایک شخص اس کا دوست بن گیا اس نے اپنے دوست کو کہا کہ جب جدہ شہر قریب آجائے تو مجھے بتانا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی شان کہ کوئی آدمی رات کا وقت تھا چھوٹا سا تھا ایک آدھ جہاز لگنے کی جگہ تھی اس نے اسکو بتا دیا کہ دیکھو وہ سامنے روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ جدہ ہے اب یہ نوجوان سامنے اس جگہ کو دیکھ رہا ہے، پتھیں اسکے دل میں کیا آیا کہ اچاک اس نے اللہ اکبر کہہ کر سمندر میں چھلانگ لگادی اب اسکے دوست نے حیران ہو کر دیکھا کہ یہ کیا کیا؟ اب وہ دیکھتا رہا کہ یہ شاید باہر لٹکے گا اور آئے گا تیرنے گا اسکا قوت نام و نشان ہی نہیں، ایسے لگتا تھا مجھے نیچے گیا اور نیچے ہی چلا گیا اس نوجوان کو خوف بھی ہوا لیکن یہ چپ کر گیا کہ میں کیوں کسی کو بتاؤں؟ کوئی مجھے یہ کہہ دے گا کہ تو نے دھکا دیا تو الٹا میں بندھ جاؤں گا، میرے سر پر ہی پڑ جائے گا، اس نے قاتھو شی اختیار کر لی مگر ہنسی طور پر اسکو بڑا

صد مہینا، خیر جہاز لگا اسکے بعد کاغذات دیکھئے گئے باہر نکلا اگر یا یہ جو دوست تھا اس نے حج کیا، حج مکمل ہونے کے بعد اچاک اس نے دیکھا کہ جمرات کا وقت جب ہوا تو وہی لا ہور کا گوالہ عربوں جیسا بابس چوغہ پہنچے ہوئے اور عربی رومال رکھے ہوئے ہے اور وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز پڑھ کر جانے لگا تو یہ دوست بنا گا اور اس سے کہا تو فلاں تو نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں، اس نے کہا یہاں کیسے؟ کہا کہ اگر ساری تفصیل سننی ہے تو میرے ساتھ آؤ، وہ ساتھ ہولیا اب جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بالکل نئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور اس میں ایک ڈرائیور بھی ہے، وہ بیٹھ گیا اور اسکو کہتا ہے کہ اندر بیٹھ جاؤ، یہ بھی بیٹھ گیا، حیرت پہلے سے زیادہ ہو گئی کہ یہ کیا بنا؟ خیر گاڑی چلی اور چلتے چلتے بالآخر شہر میں ایک کوئی سی بنی ہوئی تھی اسکے اندر داخل ہوئی، یہ باہر نکلا تو گوا لے نے اسے کہا آؤ آؤ یہ میرا گھر ہے، آؤ تمہیں بھانا ہوں، وہ اور حیران ہوا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ دیکھا کہ ڈرائینگ روم ہے اور بڑے صوفے لگے ہوئے ہیں، خوبصورت بنا ہوا ہے اس نے کچھ پینے کے لئے لا کر دیا، تو اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھنہیں آ رہی ہے مجھے آپ بتاؤ کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ اب گوا لے نے بات کھوئی کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ بس میرے دل میں شوق تھا کہ مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے لیکن میرے پاس وسائل نہیں تھے میں اللہ کے توکل پر چل پڑا جب تم نے بتایا کہ سامنے جدہ شہر ہے تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اب چھلانگ لگانا میرا کام ہے اور تک پہنچنا تیرا کام ہے، اور میں نے پانی میں چھلانگ لگادی اب تیرنا میں جانتا نہیں تھا میں ڈیکیاں کھانے لگا، اب ڈیکیاں کھاتے کھاتے سمندر کی لمبیوں نے مجھے دھکیلنا شروع کیا اور میرے پیٹ میں بہت سا پانی بھی چلا گیا اور میں نے اپنی زندگی بچانے کی کلمش میں اچاک جو ہاتھ مارے تو ایسا لگا جیسے اب پانی ڈر اکم ہو گیا اور کنارہ قریب ہے بالآخر میں کنارے پر پہنچا اور چونکہ میرے پیٹ میں بہت پانی بھر چکا تھا میں بے ہوش ہو کر پڑا رہا، اسی حالت میں میرے منہ سے پانی بھی نکلتا رہا، پیٹ کا سارا پانی واپس

نکل آیا، کافی دیر کے بعد کچھ میرے اوسان بحال ہوئے تو مجھے محسوس ہوا کہ اب تو فجر کا وقت بھی قریب ہے اور کنارے پر بھی میں لگ کیا ہوں، میں نے کہا میں اب انھوں اور جاؤں، اگر صبح ہو گئی تو لوگ مجھ سے کاغذات پوچھیں گے، آگے گیا تو آگے لوئے کی گرل لگی ہوئی تھی اور دروازے پر تالا تھا تو میں تو باہر جانہیں سکتا تھا میں نے وہ گرل کے ساتھ ساتھ چنان شروع کیا کہ کہیں سے کوئی راستہ مل جائے، چلتے چلتے ایک گھر ملا جس کا صحن اسی گرل کی طرف کھلتا تھا، میں وہاں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے دو آدمی ہیں جو گائے کا دودھ نکالنا چاہتے ہیں مگر ان کو گائے کا دودھ نکالنے کا تجربہ بالکل نہیں تھا تو گائے ان کے قابو میں نہیں آتی تھی، اب ایک اس کی ناگلوں کو پکڑتا، رسہ ڈالتا دوسرا گلاس لیکر نیچے بیٹھتا، ابھی تھوڑا سا دودھ نکالا ہوتا کہ گائے پھر لات مار دیتی، ادھر کی ادھر ہو جاتی، ایک کشتی ہو رہی تھی ان دونوں اور گائے کے درمیان، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے وہ گرل کو حركت دی، انہوں نے جب میری طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ دیکھو میں گائے کا دودھ نکالنا جانتا ہوں، جب یوں ہاتھ کا اشارہ کیا تو پہلے تو وہ نہیں سمجھے پھر انہوں نے میرے قریب آ کر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں، وہ تو بیچارے پہلے ہی مصیبت میں تھے کہ کشتی لڑ رہے تھے، اس لئے ان میں سے ایک اندر گیا اور اس نے گھر کی خاتون کو بتایا، اب صورت حال یہ تھی کہ یہ گھر اس سی پورٹ کے بڑے انچارج کا تھا، اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، اور اسے ماں کا دودھ موافق نہیں تھا، اب اس زمانے میں خشک دودھ کے ڈبے تو ہوتے نہیں تھے، فیڈر نہیں ہوتے تھے، یا تو ماں دودھ پلاتی تھی یا پھر گائے وغیرہ کا دودھ ہوتا تھا، اس لئے نیچے کو گائے کا دودھ پلایا جا رہا تھا لیکن گائے کا دودھ نکالنا وہاں گھر کے کسی نوکر کو آٹا نہیں تھا لہذا وہ گائے کا دودھ نکالنے بیٹھتے تو گائے لا تھی مارتی اور انکو دودھ نکالنے نہ دیتی، کبھی ایک گلاس لٹکتا، کبھی نہ لٹکتا کبھی بچپن کو کارہتا اور کبھی پیٹ بھر جاتا اب جب ان دونوں نے جا کر اسکو کہا کہ ادھر ایک بندہ ہے

سافر لگ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تجربہ ہے میں دودھ نکال لیتا ہوں تو ماں تو چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کے لئے وافر مقدار میں دودھ ہواں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور چابی نکال کر دی کہ دروازہ کھولو اور اس کو لے آؤ، لہذا وہ بندہ آیا اور دروازہ کھول کر مجھے لے گیا میں نے ان دونوں کو ایک طرف آرام سے بھاڑا دیا اور گائے کی کمر پر ہاتھ پھیرا، اور جانور بھی پہچان لیتا ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا بندہ تجربہ کار ہے کہ نہیں، جیسے ہی میں نے ہاتھ پھیرا گائے بڑی آرام سے کھڑی ہو گئی، دودھ دینے کے لئے تیار، مجھے چونکہ تجربہ تھا میں نے ان سے بڑا برتن منگوایا اور جب میں نے اسکا دودھ نکالا تو وہ تو دوچار لکھوتا اسکو دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئے کہ اتنا دودھ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک گلاں میں دودھ نکالتے تھے، اب جب وہ اتنا دودھ لیکر اندر گئے تو اس افسر کی بیوی کی تو آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ میرے بچے کے لئے اتنا زیادہ دودھ، اب خوشی سے اسکی تو حالت بری ہو گئی اس نے کہا کہ جو بھی ہے اس بندے کو جانے نہیں دینا، مجھے انہوں نے گھر میں ایک جگہ بھاڑا دیا اور ناشستہ بھی کروایا اور کہا کہ آرام کرو بس تم ادھر ہو، جب اس کا خاوند اخھا تو اس نے خاوند کو بھی بتایا کہ دیکھو یہ تو ہمارے ساتھ خدائی مدد ہو گئی، آج میرے بچے کے لئے اللہ نے دودھ کا انتظام کر دیا اور دیکھو اس بندے کو جانے نہیں دینا، اب وہ افسر آیا اس نے مجھے کہا کہ کہم نے یہاں سے جانا نہیں، میں نے کہا کہ نہیں میں نے تو اللہ کے گھر جانا ہے وہ ہر مرتبہ کہہ کہ تم نے کہیں نہیں جانا اور میں ہر بار کہوں کہ میں نے اللہ کے گھر جانا ہے، وہ مجھے تسلیاں دیتا کہ اچھا تھے بھیج دیں گے، خیر میں اسکے پاس رہنے لگ گیا کچھ دس پندرہ دن کے بعد اس عورت نے اپنے والد کو فون پر بتایا کہ میرے بچے کے لئے دودھ کا بڑا مسئلہ تھا وہ اس طرح حل ہو گیا، میں ایک بندہ ملا ہے وہ دودھ بہت اچھا نکال لیتا ہے، اسکے والد کی کوئی دس بارہ گاہیں تھیں اور اسکو بھی دودھ نکالنے کی پریشانی تھی کہ نو کر چا کر دودھ نکالنا نہیں جانتے تھے، اس نے کہا بیٹی پھر ایسا کرو کہ اس بندے کو میرے پاس مکہ مکرہ نہ بھیج دو اور آپ کے بچے

کے لئے دودھ کا بندوبست میں یہاں سے کر دوں گا، پھر یہ ہوا کہ یہ گواہ وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا اب اس بندے نے اسکوا یک دودن اپنے پاس رکھا، کہنے لگا کہ میرے لئے دس پندرہ گائیوں کا کونسا مسئلہ تھا جب میں نے ان کے کئی برتن دودھ سے بھردئے تو وہ بندہ بڑا حیران، وہ مجھے کہے کہ تم نے میں رہنا ہے میں نے کہا میں نے اللہ کے گھر جانا ہے وہ مجھے سمجھائے کہ تم نے میں رہنا ہے میں اسے کہوں کہ نہیں مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، بالآخر اس نے کہا کہ تجھے بھی اللہ کا گھر دکھائیں گے مگر تو نے رہنا یہی ہے، دیکھ یہ جو گھر ہے یہ میں نے نیا بنوایا تھا لیکن یہ میں تمہیں دیتا ہوں تم یہاں رہو اور گاڑی بھی تمہیں دیتا ہوں اور اب تم اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ آخری جہاز ایک آر ہا ہے ہم تمہارے بیوی بچوں کو بھی وہاں سے بلوالیتے ہیں تو میں نے ان کو پتہ دیا انہوں نے میرے بیوی بچوں کو بلوالیا ب میں یہاں رہتا ہوں جو بھی میں نے کیا اللہ کا گھر بھی دیکھا گاڑی بھی میرے پاس ہے جب چاہتا ہوں حرم میں آ کر نماز پڑھتا ہوں اور اللہ نے مجھے یہاں ہر رحمت عطا کروی اور جو میری مراد تھی جس کو لیکر میں گھر سے نکلا تھا اللہ نے میری مراد کو بھی پورا فرمادیا تو حضرت مولانا ادریس کاندھلویؒ یہ واقعہ سن کر کہتے تھے کاش لا ہور کے ایک گوالے کے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کی جوتمنا تھی وہ تمباہمارے دل میں بھی آ جاتی۔

## حج کس بنیاد پر ہوتا ہے؟

ہمارے اکابرین سالوں دعا میں مانگتے تھے اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب آنے لگتے تھے تو گھر کے برتن بھی بیچنے پڑتے تھے، زیور بیچنے پڑتے تھے پھر جا کر کہیں خرچ پورا ہوتا تھا اور یہاں تک پہنچتے تھے، ہم پر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یہاں آسانی کے ساتھ پہنچا دیا۔

یہ عاجز جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق اعمال سے ہے، مال سے نہیں ہے اسلئے کہ اگر مال کے زور پر کوئی کہے کہ حج کروں گا، عمر بے کروں گا تو پھر دنیا کے مالدار

لوگ سب سے زیادہ حج اور عمرہ کرنے والے ہوتے مگر ایسا نہیں ہے۔

## عبرتناک واقعہ

چنانچہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا اللہ اکبر آج بھی سوچتے ہیں تو کا نہتے ہیں، کہ امریکہ سے ایک پڑھا لکھا جو زاج کرنے کی نیت سے چلا اور جو وی آئی پی حج، کا مرض ہے، وہ وی آئی پی حج ان کے ذہن میں بھی تھا کہ وی آئی پی حج کرنا ہے، انکو اپنے پیسے پر بڑا ناز تھا، چنانچہ چلے اور آبھی گئے اسی گروپ میں تھے جس گروپ میں ہمیں حج کرنا تھا، ہم نے دیکھا کہ ان کی طبیعتیں ایسی تھیں کہ ہر چیز پر اعتراض کرتے تھے، یہ چیز اچھی نہیں، وہ اچھی نہیں، دونوں میاں بیوی جو چیز دیکھتے اس پر تلقید کرنے بیٹھے جاتے، لگتا ایسا تھا کہ جیسے معاذ اللہ کوئی اللہ پر احسان چڑھانے آگئے ہوں، اب ہوا ایسا کہ جیسے ہی ذی الحجه کے ایام شروع ہوئے پانچ چھوڑی الحجه کا واقعہ ہوگا کہ اس کے خاوند کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی، ہسپتال پہنچا دیا گیا انہوں نے بتایا کہ اس کو ہارت اٹیک ہے، دل کا دورہ پڑا ہے انہوں نے اسکو آئی سی یو میں رکھا حتیٰ کے وہ دن آگیا جب عرفات جانا تھا تو یہاں کا ایک دستور ہے کہ جو لوگ حج کی نیت سے آئے ہوئے ہوں ہسپتال والے ان کو اپنی ذمہ داری پر ایسوبولیں کے اندر لے جاتے ہیں اور وقوف عرفہ کردا کہ پھر واپس لا تے ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر اور ساری میڈیکل ٹرینیٹیت میٹت ہوتی ہے یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا ہاسپیٹل ان کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ان کا حج ہو جائے تو انہوں نے اسکو کہا کہ یہ فارم بھر دوتا کہ ہم آپ کے حج کا انتظام کر دیں خاوند صاحب کہنے لگے کہ نہیں مجھے یہ فارم نہیں بھرنا، کیوں نہیں بھرنا؟ تو اس نے کہا کہ میں چلا تھا وہاں سے حج کرنے، خدا کا گرد دیکھنے پھر اللہ نے مجھے ہارت اٹیک کیوں دیا؟ سو حج دیکھنے کہ میں تو اس کا گرد دیکھنے آیا تھا اس نے کیوں مجھے دل کا دورہ دیا، لہذا مجھے اب عرفات نہیں جانا، ڈاکٹر فتنیں کر رہے ہیں کہ دخنخڑ کر دوتا کہ ہم آپ کو وقوف عرفات

کروائیں، اس نے کہا ہیں، جب اس نے انکار کر دیا تو اُکٹروں نے اُنکی بیوی سے کہا کہ آپ تو خیمہ میں ہیں جو معلم ہیں اُنکی عمارت میں ہیں ایسے کندیشن کرے میں ہیں آپ دستخط کر دیں تاکہ ہم آپ کو وقوف عرفات کروا کر واپس لا میں، بیوی نے بھی کہا ہیں مجھے بھی عرفات نہیں جانا، چنانچہ تمام لوگ وقوف عرفات کر کے آگئے، لیکن نہ اس بیوی نے وقوف عرفہ کیا اور نہ اس کے خاوند نے کیا اور حج کئے بغیر بالآخر یہاں سے واپس چلے گئے

حضرت ہے اس مسافر مختصر کے حال پر

جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے

منزل بھی سامنے ہے اور توفیق چھن گئی، یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو مال کے ناز پر آتے ہیں اللہ قریب لا کران کو محروم لوٹا دیتے ہیں، اس لئے اس چیز کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے طلب کے ساتھ ہے جتنی طلب ہوگی اتنا اللہ راستے کھولیں گے ایک دفعہ نہیں بار بار راستے کھولیں گے، آپ اچھی طرح عمرہ کریں اچھی طرح سے یہاں وقت گزاریں، اللہ آپ کے لئے بار بار راستے کھول دیں گے۔

بار بار حج عمرہ کیسے نصیب ہو؟

اُکٹروں یہ سوال کرتے ہیں کہ بار بار حج عمرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال سننے کہ اسکوں کے ہیڈ ماسٹر کو اگر کرکٹ کی شیم کے کھلاڑیوں کے نام لکھنے ہوں تو جو اچھا کھلینے والا ہوگا اسکے لئے اسکو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسکا نام وہ پہلے ہی لکھ لیتا ہے، مشورے کی بات وہاں آتی ہے جہاں اتنا اچھا کھلاڑی نہیں ہوتا کہ اس کو رکھیں یا نہ رکھیں، جو اچھا کھلینے والا ہو، اسکو بنانے والا ہو، بالنگ کرنے والا ہوتا ہے وہ پہلے ہی اسکا نام لکھ لیتا ہے کہ انہوں نے تو آنا ہی ہے بالکل یہی مثال ہے کہ جو حرم میں آ کر اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزارتا ہے، آداب حرم کا خیال رکھتا ہے، یکسوئی کے ساتھ عبادت

کرتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے سر نیاز جھکا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے جوں اور عمروں میں اسکا نام پہلے ہی لکھوا دیتے ہیں، تو ہم یہاں طلب کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔

## پلکوں کے بل اللہ کے گھر کی حاضری

آنے والے یہاں کس کس طلب کے ساتھ آئے، واقعات پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم نے بیٹھنے سے عمرہ کے لئے حاضر ہونے کا ارادہ کیا چنانچہ جب وہ سفر پر نکلے تو عجیب بات کہ ایک قدم اٹھاتے اور مصلی بچھا کر دور کعت نفل پڑھتے، پھر اگلے قدم پر مصلی بچھاتے پھر دور کعت نفل پڑھتے ہر ہر قدم پر دور کعت نفل پڑھتے پڑھتے ڈھائی سال کے عرصے میں وہ یہاں پہنچے، طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر دور کعت نفل پڑھے اور دعا مانگی کہ اللہ لوگ پاؤں سے چل کر تیرے گھر کی طرف آتے ہیں میں تو پلکوں کے بل چل کر تیرے گھر کی طرف آیا ہوں، اللہ اکبر ان کے دلوں میں اللہ کی کیسی محبت ہو گی جو پلکوں کے بل چل کر اللہ کے گھر پہنچے، جس نے ہر قدم پر سجدے کئے ہوں وہ تو پلکوں کے کے بل، ہی چل کر یہاں پہنچا۔

## رابعہ بصریہ کا عارفانہ جواب

کہتے ہیں کہ یہ اپنے عمرے سے فارغ ہوئے انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے وہ حرم میں آئی تو اسکے اوپر تجلیات ذاتیہ کا اور ردا در نور کی بارش ایسی ہو رہی ہے جیسی تجلیات بیت اللہ پر تھیں بعضیہ ولیٰ ہی تجلیات اسکے دل پر وارد ہو رہی تھیں، پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ رابعہ بصریہ ہیں، تو ابراہیم بن ادھم حیران ہوئے اور جا کر کہنے لگے کہ میں تو ہر ہر قدم پر دور کعت پڑھ کر یہاں پہنچا اور مجھے بھی یہ مقام نہ ملا کہ یہ تجلیات میرے اوپر آتیں جو تجھ پر اتریں، آخر تو کون شامل

کر کے آئی؟ تو رابعہ نے دو حروف میں بات سمیٹ دی، فرمایا ابراھیم تو یہاں سرنیاز لے کر کر آیا ہے، میں یہاں دل نیاز لے کر آئی ہوں، تو جھکنے والا سر لے کر آیا ہے میں یہاں جھکنے والا دل لے کر آئی ہوں، اس بارگاہ میں جو حقیقی عاجزی کے ساتھ آتا ہے اسکا اتنا ہی استقبال ہوتا ہے، بندے کو بندگی ہی سمجھتی ہے، اللہ کے سامنے جتنا جھکا جاسکے جھکیں، تو دیکھوآ نے والوں نے تو یہاں تک اس طرح سفر کئے۔

### ایک اپاہج کا عاشقانہ حج

مالک بن دینارؒ کا واقعہ تو آپ سن، ہی چکے ہیں فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم، دو پہر کا وقت تھا، چلپلاتی دھوپ اتنی سخت گرمی تھی کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور چوپائے بھی بیٹھ گئے انسان بھی سائے میں بیٹھ گئے باہر کی چیز کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، اسی حالت میں کسی ضروری کام کی وجہ سے مجھے باہر نکلا پڑا، لیکن سورج جیسے آگ بر سار ہا ہو، میں گلی میں سے گذر رہا تھا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو دونوں ٹانگوں سے معدود رہے اور گھستا گھستا آگے آ رہا ہے میں نے قریب سے اسکو دیکھا تو پیسہ میں اسکے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور سورج کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے اسکا چہرہ سرخ ہو چکا تھا جیسے دھوپ نے اسکی کھال کو جلا کر رکھ دیا ہوا اور وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں حج کیلئے جا رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے ٹھوڑی دیر کے لئے ٹھہر جا جب دو پہر کی دھوپ ختم ہو جائے گی تو پھر آگے چلے جانا، اس نے کہا کہ مالک بن دینار! تو تو پاؤں کے ذریعہ چلتا ہے سفر طے ہو جاتا ہے میں تو ایک ایک انج گھست گھست کر آگے بڑھتا ہوں، مجھے وقت زیادہ لگتا ہے مجھے اس بات کا ذر ہے کہ اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور میرا سفر ہی ختم نہ ہو، اس ڈر کی

وجہ سے میں رکتا نہیں، تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ نوجوان میں تیرے لئے کسی سواری کا انتظام کر دیتا ہوں سواری پر سوار ہو کر جلدی چلے جانا، جیسے ہی میں نے یہ کہا اس نوجوان نے غصب ناک نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا مالک بن دینار میں تجھے بڑا عظمند سمجھتا تھا تم نے یہ کیا بات کی، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو جا کر مناؤں تو بتاؤ اس غلام کو سواری پر جانا اچھا لگتا ہے یا اسکو گھٹ گھٹ کر مالک کے در پر پہنچنا اچھا لگتا ہے؟ میں اس نوجوان کی بات سے حیران ہو گیا، وہ نوجوان چلا گیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں اسی سال اللہ نے میرے لئے بھی حج کا سفر آسان کر دیا میں بھی حج میں شریک ہوا جب میں نے پہلے دن رمی جمار کی (جب عرفات سے واپس لوئتے ہیں تو اس وقت کا بڑا عمل شیطان کو نکریاں مارنا پھر اسکے بعد قربانی کرنا اور حلق کرو اکرا حرام اتنا ناہے) کہنے لگے جب میں نکریاں مار کر فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے جو دعا میں مانگ رہا ہے اور سب لوگ اس کی دعا کوں رہے ہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے راستہ دو، انہوں نے راستہ دیا، میں نے دیکھا کہ وہی اپا بچ نوجوان ہے احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے دعا میں کر رہا ہے اور دعا میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے تیرے گھر کا دیدار کیا، میں نے عرفات میں بھی وقوف کیا، مزدلفہ میں بھی وقوف کیا، اے اللہ! اب میں نے شیطان کو نکریاں مار کر اس سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا، اب قربانی کا وقت ہے یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب صاحب استعداد لوگ ہیں یہ جائیں گے اور جا کر جانوروں کو قربان کریں گے اور مولیٰ تو جانتا ہے کہ میں فقیر انسان ہوں احرام کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اے میرے مولی! میں اس وقت اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں اے اللہ! مجھ سے میرا یہ نذر آنہ قبول کر لیجئے!

اس نوجوان نے یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی، آنے والے ان محبتوں کے ساتھ ان جگہوں پر آئے، آپ سوچیں کیا ہمارے دلوں میں وہ کیفیتیں ہیں؟ وہ محبتیں ہیں؟ ہم تو وقت کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں جیسی کہ کرنی چاہئے تھی۔

## زندگی کا انمول وقت

یہ ہن میں رکھیں کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کا انمول وقت لذار رہے ہیں معلوم نہیں یہ وقت پھر کس کو ملے اور کس کو نہ ملے، اس وقت کی قدر کرنی چاہئے ایک ایک لمحہ کی قدر کریں، ایسا قیمتی وقت ہے کہ ایک لمحہ کی دعا قبول ہو جائے تو انسان کو ولی بنانے کے لئے کافی ہو سکتی ہے، ہم ایسی جگہ پر حاضر ہیں، ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہئے عبادت کوشوق ذوق کے ساتھ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا چاہئے اسلئے کہ ہم اپنے محبوب حقیقی کے گھر کی طرف آئیں ہیں، اب دیکھنے میں تو یہ گھر ہے اور گھر ہی کا طواف کرتے ہیں لیکن حقیقت میں تو گھروالے کی محبت کھینچ لائی ہے۔

مجھوںے کہا تھا:

اطوْف عَلَى جَدَارٍ دِيَارِ لِيلِي  
مِنْ لِيلِي كَيْ لُلْيُونْ كَا طَوَافَ كَرْتَا هُول  
اقْبِلَ ذَا الجَدَارَ وَذَا الْجَدَارَا  
كَبُّحِي اس دِيَارِ كُوبُوسِ دِيَتا هُول كَبُّحِي اس دِيَارِ كُوبُوسِ دِيَتا هُول  
وَما حَبَ الدِيَارِ شَغْفَنْ قَلْبِي  
اوَّرَ اس گَھرِي محْبَتْ نَمِيرَ دَلَ كَوْنَهِيں كَهِنْچَا  
وَلَكُنْ حَبَ منْ سَكَنَ الدِيَارَا  
جو اس گھر میں رہنے والا ہے اسکی محْبَتْ نَمِيرَ دَلَ کَوْبَے خُودَ کر دیا ہے،

تو ہم جو یہاں آئے تب یہ پھر کے گھر نے تو نہیں کھینچا اسلئے فرمایا **فَلَيَعْبُدُوا**  
رَبَّهُذَا الْبَيْتُ

اس گھر کے رب کی عبادت کرو اس رب کی عبادت کے لئے  
یہاں پہنچے ہیں، ہمارا مقصد تو وہ ہے۔

## تجلیات الہی کا طواف

حسن بصریؒ نے مارتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو طواف کر رہی تھی مگر اشعار اوپری آواز سے پڑھ رہی تھی اور وہ اشعار ایسے عاشقانہ تھے کہ جیسے کوئی محبت اپنے محبوب کی جدائی میں ترس گیا ہو، تڑپ گیا ہو اور اب ملے بغیر اسکو چارہ نہ ہو، وہ چونکہ جوان العمر لڑکی تھی ایسے الفاظ اسکی زبان سے سن کر مجھے محسوس ہوا کہ اسکو اوپرے آواز سے تو نہیں پڑھنا چاہئے، تو میں نے اس لڑکی کوٹوکا کہ تو جوان العمر لڑکی ہے اور ایسے عاشقانہ اشعار، اس طرح اوپری آواز سے پڑھنا تمہارے لئے زیب نہیں دیتا، توجب میں نے اس سے یہ بات کہی تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ حسن بصری یہ بتاؤ کہ اس گھر کا طواف کر رہے ہے ہو یا گھر والے کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو، میں نے اسے کہہ دیا کہ میں تو اس گھر کا طواف کر رہا ہوں، جب میں نے یہ کہا تو وہ سکراں اور کہنے لگی اے حسن! جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اس گھر کی تجلیات والے کا طواف کرتے ہیں۔

یہاں آنے والے کن محبوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے کیسے وقت گزارا، یہ وہی بیت اللہ ہے، وہی تجلیات ہیں، وہی پروردگار ہے، ہمیں اللہ نے زندگی میں موقع دے دیا اس موقع کو غیمت سمجھ کر تہجد میں ہم اللہ سے مانگیں، نمازوں کے بعد مانگیں، تلاوت کے بعد مانگیں۔

## مرشد عالم کا طرز تلاوت

ہمارے حضرت مرشد عالم فرماتے تھے کہ میں نے زندگی کے ایک حج میں ایسا

کیا کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا ہر ہر آیت کو پڑھ کروہ  
آیت جیسی ہوتی اگر بشارت والی ہوتی تو اللہ سے جنت مانگتا اور اگر ذرانے والی  
ہوتی تو جہنم سے پناہ مانگتا، ہر ہر آیت پڑھ کر دعا مانگتے مانگتے بالآخر میں نے الحمد  
سے والناس تک قرآن مکمل کیا، ہمارے بزرگوں نے حرم میں اس طرح وقت گزارا  
ہم بھی کچھ کوشش کر لیں، پورا قرآن نہ پڑھیں تو قرآن یا ک کی کوئی ایک سورت  
ہی اس کیفیت کے ساتھ پڑھ لیں اللہ رب العزت ہمیں تصحیح کیتیاں کے ساتھ،  
محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ بیت اللہ شریف میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق  
عطافرمائے۔ آمین،

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## مناجات

تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا	شکر ہے تیرا خدا یا، میں تو اس قابل نہ تھا
گرد کعبہ کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا	اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا
مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا	جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا
ڈال دی ٹھنڈک مرے سینے میں تو نے ساقیا	اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا
نجا گیا میری زبان کو ذکر الا اللہ کا	یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا
خاس اپنے درکار کھا تو نے اے موی مجھے	یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا
میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا	پُر نہیں تو نے بھلا کیا، میں تو اس قابل نہ تھا
عہد جو روز اذل تھجھ سے کیا تھا یاد ہے	تو ہی مجھ کو رہ پڑایا، میں تو اس قابل نہ تھا
تیری رحمت، تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب	عہدوں کس نے نجھایا، میں تو اس قابل نہ تھا
میں نے جو دیکھا سودیکھا جلوہ گاہ قدس میں	گند خضراء کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا
بارگاہ سید الکوئین میں آ کر نصیں	سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي يَنْكَهُونَ﴾

بَيْتُ اللَّهِ

### از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

# فہرست عنوانوں

شمار	عنوان	صفحہ
۱	محبت کا تقاضا	۵۲
۲	جو چھپائے نہ چھپے	۵۳
۳	لفظ کعبہ	۵۴
۴	ایک نکتہ کی بات	۵۴
۵	در بار شاہی کا تقاضا	۵۶
۶	شہر جدہ	۶۱
۷	شہر مکہ کی عزت کا باعث	۶۲
۸	بڑے کا بڑا اور بار	۶۳
۹	کعبۃ اللہ اور کالا رنگ	۶۴
۱۰	تمنائے دل جو پوری ہوتی	۶۵
۱۱	کعبہ دلوں کا مقناطیس ہے	۶۶
۱۲	دکھڑے کس کو سنا میں؟	۶۷
۱۳	غور کرنے کا مقام	۶۸
۱۴	وقت کیسے گزاریں؟	۶۸
۱۵	ارادے پر کپڑا	۷۰

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

## اقتباس

مؤمن کا عشق اظہار چاہتا تھا اب اس کا اظہار  
کیسے کرے؟ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کا کسی ایک مست  
کی طرف بھی تعین نہیں کر سکتے ﴿أَيْنَمَا تُوَلُّونَ أَفَلَمْ وَجَدُ  
اللَّهَ بِهِ جَسْ طرف رخ کروادھر ہی اللہ ہے تو پھر ہم کیا  
کریں؟ اگر کوئی مست متعین نہ کی جاتی اور پھر اپر سے  
عبادت کا حکم بھی دیا جاتا تو شاید انسان پا گل ہو جاتا کہ  
میں کدھر رخ کروں کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے دعا  
کرتا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی  
جنوب کی طرف نہ اجتماعیت ہوتی نہ سب کسی ایک بات  
پر اکٹھے ہوتے اللہ نے انسانوں پر ایک احسان فرمادیا  
کہ ایک جگہ کو متعین کر دیا اور فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔

﴿از افادات﴾

حضرت مولانا پیر

حافظ ذوالفقار احمد صاحب

نقشبندی مجددی زید مجددہ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين الصطفى، اما بعد!

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَثَةٍ)

سبحان رب العزت عم ايصفون و سلام على المرسلين

والحمد لله رب العلمين

اللهم صلی علی سیدنامحمد و علی آل سیدنامحمد و بارک و سلم

اللهم صلی علی سیدنامحمد و علی آل سیدنامحمد و بارک و سلم

اللهم صلی علی سیدنامحمد و علی آل سیدنامحمد و بارک و سلم

### محبت کا تقاضا

کعبہ کا ایک نام بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا یہاں پر ورود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے لئے پسند فرمایا اور اپنی تجلیات یہاں پر نازل فرمائ کر اسکو بیتی کا تاج پہنانا یا، مالک الملک کا یہ کہہ دینا کہ بیتی میرا گھر، اس سے بڑا شرف اور کوئی نہیں ہو سکتا، عام طور پر دستور ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ انبان اپنے محبوب کو دیکھیے، اس سے بات کرے، محبت اس سے بات کرنے کا تقاضہ کرتی ہے اسی لئے کہنے والے نے کہا۔

کبھی اے حقیقتِ منتظر نظر آلباس مجاز میں

کہ ہزاروں بجدے ترپد ہے ہیں میری چینیں نیاز میں

تو بندے کا جی دیکھنے کو چاہتا ہے، اسی لئے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت میں ڈوب کر یہ فرمادیا ہے (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا ہے (لَنْ تَرَأَنِي) آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے

کہ اس کی تھیں ہی نہیں ہو سکتی کہ میری تجلیات پڑیں اور یہ اسکو سنبھال سکے چنانچہ اللہ رب العزت نے ستر ہزار پر دوں میں سے تجھی فرمائی اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اس سے اندازہ لگایے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا نور کیسا ہو گا وہ تجلیات کا نور اللہ رب العزت نے بیت اللہ پر عطا فرمایا اور اسکو پانچ گھن بنا یا کہ یہ میرا گھر ہے۔

چنانچہ جب انسان اپنے محبوب کو دیکھنے میں سکتا تو پھر دوسرا بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے آثار کو دیکھتا ہے اسکی نشانیوں کو اور متعلقہ چیزوں کو دیکھ کر اس سے قرار پکڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہو گا کہ ماں کا جوان بچہ فوت ہو جائے تو وہ اسکے کمرے آ کر سکون پاتی ہے اسکی چیزوں کو دیکھ کر اسے یاد کرتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کی فلاں چیز ہے یہ میرے بیٹے کی فلاں چیز ہے، یہ چیزیں اسے سکون دیتی ہیں بیٹے کی یاد دلاتی ہیں۔

## جو چھپائے نہ چھپے

بالکل اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنے میں سکتے اب ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں چونکہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اظہار کے بغیر رہنے میں سکتیں ایک عشق اور دوسرا مشد۔

مشک بھی اظہار چاہتا ہے جہاں بوجا گا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، خوشبو چھیلے گی بتا دے گی کہ کسی کے پاس مشک موجود ہے اور عشق بھی اسی طرح اظہار چاہتا ہے، جب بھی کسی کے دل میں ہو گا وہ چھپا نہیں رہ سکتا ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے تو مؤمن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے تو مؤمن کا عشق اظہار چاہتا تھا اب اس کا اظہار کیسے کرے؟ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس کا کسی ایک سمت کی طرف بھی تعین نہیں کر سکتے ﴿أَيْمَانُكُلُّوْأَفَّمَ وَجْهُ اللَّهِ﴾ جس طرف رخ کرو ادھر ہی اللہ ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر کوئی سمت تعین نہ کی جاتی اور پھر اوپر سے عبادت کا حکم بھی دیا جاتا تو شاید انسان پاگل ہو جاتا کہ میں کہہ رخ کروں کوئی مشرق کی طرف

منہ کر کے دعا کرتا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف نہ اجتماعیت ہوتی نہ سب کسی ایک بات پر اکٹھے ہوتے اللہ نے انسانوں پر ایک احسان فرمادیا کہ ایک جگہ کو متعین کرو دیا اور فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے چنانچہ جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں اس پر اللہ کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اب دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے ایک مست متعین ہو گئی جو جہاں کہیں بھی ہے وہیں سے اس کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، ہر جگہ لوگ اسی کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ ذرا غور کریں دنیا میں جو بھی مسجد آپ دیکھیں گے اسکیں ایک محراب بنا ہو گا، وہ کیوں؟ وہ قبلہ نما ہوتا ہے ادھر سے قبلہ کا رخ متعین ہوتا ہے، ادھرام کھڑا ہوتا ہے اور یہاں اس مسجد حرام میں آئیں تو آپ کو کہیں محراب نظر نہیں آئے گے اس لئے کہ یہ خود کعبہ ہے جس سمت میں آپ کھڑے ہیں ادھر سے آپ اسکی طرف رخ کریں تو آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں۔

### لفظ کعبہ

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسکو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کعبہ کا لفظ مکعب سے نکلا ہے مکعب کہتے ہیں چھپہلو کی چیزوں، اب اگر آپ بیت اللہ کو دیکھیں تو چار اس کی جانبیں ہو گئیں ایک اوپر کی حصہ اور ایک نیچے کی زمین والی جانب، تو چھپہلو ہو گئے تو چونکہ مکعب کی شکل کی یہ عمارت ہے اس وجہ سے اسکو کعبہ کہہ دیا گیا لہذا یہ کعبہ کے نام سے مشہور ہے، اس کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اسکو بیت العقیق بھی کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے شعائر میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے گھر کے لئے پسند فرمایا۔

### ایک نکتہ کی بات

اب یہاں ایک نکتہ کی بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی سر بزمکان پسند

فرمایتے مثلاً کشمیر کو پسند فرماتے، اس میں بھی جب ہم وادیٰ فاران اور وادیٰ ناران کا سفر کرتے ہیں تو اسکی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، وادیٰ نیلم کو دیکھتے ہیں تو اسکی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، شام کے علاقوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے باغات کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، دریائے نیل کے اطراف میں سفر کریں تو ایسے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سر زبر مقامات کو بھی پسند فرماسکتے تھے، مگر نہیں اللہ رب العزت نے اس جگہ کو پسند کیا جس کو ہم ججاز کہتے ہیں، عرب کا یہ مکران تین طرف سے دیکھیں تو پانی سے گھرا ہوا ہے کبھی آپ دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کر غور کریں تو یہ ججاز مقدس تین طرف پانی سے گھرا ہوا ہے اور باقی دنیا سے کٹا ہوا ہے، صرف اوپر ایک طرف بلا دشام کی طرف سے باتی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے انسان کا دل ہوتا ہے تین طرف سے لٹک رہا ہوتا ہے صرف اوپر ایک طرف سے پورے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے چونکہ اسے دھڑکنا ہوتا ہے اور اسکے دھڑکنے پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اس مکران کو دنیا کا جغرافیائی قلب بنادیا، تین طرف سے اسکو پانی سے کاٹ کر اوپر سے جوڑ دیا، جب تک یہ دھڑکتا رہے گا، یہ دنیا قائم رہے گی اور واقعی حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ۃٰت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک کالے رنگ کا جبشی ہو گا جو تیر پھینکنے گا آج کے دور میں (میزائل مارے گا) اور بیت اللہ کو گرانے کا اور بیت اللہ کا گرنا اس دنیا کی آخری بڑی نشانی ہو گی پھر اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کی بساط کو سمیٹ کر رکھ دے گا تو اس کا مطلب ہے جب تک بیت اللہ ہے اس وقت تک یہ دنیا قائم ہے اسی لئے اس کو ﴿قیاماً لِلنَّاسِ﴾ فرمایا گیا انسانوں کے قیام کا سبب، یہ اللہ کا گھر ہمارے روحانی قیام کا سبب ہے، چنانچہ یہ جغرافیائی دل ہے اللہ تعالیٰ نے اس دل کو پسند فرمایا۔

## در بار شاہی کا تقاضا

یہاں ایک نکتہ اور بھی عرض کر دیں کہ حجاز کا لفظی مطلب ہوتا ہے پختہ جسے مٹی  
ہٹاتے ہیں اور کسی ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں تو اسکی مٹی کو پچھے کر کے لگادیتے ہیں  
تو اسکو پختہ کہتے ہیں پختہ لگادیا یہ بھی پختہ ہے، وہ کیسے؟ کہ اگر آپ سمندر کی طرف  
سفر کریں تو آپ کو جدہ ایک شہر نظر آئے گا اور جدہ کے بعد پہاڑوں کا ایک پورا  
سلسلہ ہے جو سمندر کے کنارے کچھ فاصلے پر بہت کردیواری بنی ہوئی ہے یہ دیوار  
سی کیوں بنی؟ اسکی اوپرائی صرف تین سو میٹر ہے سطح سمندر سے زیادہ اونچی بھی نہیں  
ہے، لیکن اتنی اونچی ہے کہ یہ مون سون کی ہواں کو روکتی ہے اسی لئے اگر یہ درمیان  
میں پہاڑی سلسلہ نہ ہوتا تو آج مکہ مکرمہ بھی باعث کی مانند سر بزرو شاداب ہوتا، اس لئے  
کہ سمندر کی ہواں میں جو پانی کے ساتھ بھری ہوئی ہیں یہاں بادشیں برستیں، یہاں  
کام قام بہت پر فضا ہوتا اور یہاں پر سر بزرو شادابی ہوتی مگر اس پشتہ اور دیوار نے  
ان ہواں کا راستہ بند کر دیا اب یہاں پر نہ مختنڈی ہو اپنے پختہ ہے نہ پانی ہے، پہاڑوں کی  
وجہ سے پانی ہے ہی نہیں اسی لئے قرآن مجید نے اس علاقہ کو کہا **بِوَادِ غَيْرِ ذِي**  
**زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ** کہ یہ ایسی وادی ہے جس میں بزرے کاشان ہی  
نہیں، چنانچہ آپ اردو یکھیں آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے ان پہاڑوں پر کوئی  
درخت نہیں ہے، چھوٹی موٹی کچھ جڑی بویاں نظر آئیں گی وہ بھی جانوروں کے  
چرنے کے لئے، اسکے سوا کچھ نہیں ہے، پانی ہی نہیں ہے خشک پہاڑ ہیں اب جب  
خشک پہاڑ ہوں اور اوپر سے سورج کی گرمی بھی ہو تو وہ جگہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی  
ہے چنانچہ مکہ مکرمہ کی گرمی مشہور ہے اور اگر پانی بھی نہ ملے تو؟ یہ جگہ زندہ رہنے  
کے قابل نہیں تھی اسی لئے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں رہتا تھا تو پھر یہاں  
کیا تھا؟

اصل میں یہ ایک چوراہا تھا لوگ سفر کرتے تھے ایک طرف ریاستوں سے چل

کروہ یمن کی طرف جاتے تھے اور دوسری طرف وہ ہندوستان سے ایشیا کے کوچک کی طرف جاتے تھے تو یہ دوراستے یوں بنتے تھے اور دوراستے جہاں ایک دوسرے کو عبور کریں اس جگہ کو چوراہا کہتے ہیں، تو پرانے زمانے کے تجارتی سفروں کا یہ چوراہا تھا، سردیوں کا سفر ایک تھا اور گرمیوں کا سفر دوسرا تھا قرآن مجید نے کہا ﴿هُر خَلَةٌ الشِّتَاءُ وَالصَّيْفُ﴾ سردی اور گرمی کے الگ الگ سفر ہوتے تھے، چوراہے کی وجہ سے بسا واقعات لوگ ٹھہر جاتے تھے مگر پانی نہیں تھا اسلئے کوئی یہاں آب انہیں ہوتا تھا بس آنا جانار کھتے تھے، وقتی پڑا اور چلے گئے، کوئی بستا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعہ یہاں پر بیت اللہ کو بنوایا، پھر آدم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر عمارت کھڑی کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا لآخر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اسی پرانی بنیادوں پر پھر گھر بنوایا، اس کا تذکرہ قرآن عظیم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور انکے میئے اسماعیل میرے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے یہ بنیادوں کا کھڑا کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسکو اپنے کلام کا حصہ بنادیا چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اب بیت اللہ تو تعمیر ہو گیا لیکن اسکو آباد کرنے کے لئے بھی تو کوئی انتظام چاہئے تھا تو اسکے لئے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں اور ویسے بھی دستور ہے کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو اس کو اسکی تحویاہ ملتی ہے، انعام ملتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنالیا تو اب اللہ رب العزت نے ان کو انعام دینے کا ارادہ فرمایا، ہم لوگ تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا سا انعام دیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت چونکہ مالک الملک ہیں فرمایا ابراہیم! مانگو تم کیا مانگتے ہو، تم جو مانگو گے ہم دینگے اور پھر مانگنے والے نے بھی مانگنے کا حق ادا کر دیا کہ یا اللہ! میں تجھ سے دنیا کا مال و متناں نہیں مانگتا، میں تجھ سے دنیا کا حسن و جمال نہیں مانگتا، تو میرے ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ!

میں فقط آپ سے آمنہ کالال مانگتا ہوں، میں بھی وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانہ میں بھی ایک ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ﴿رَبَّنَا وَابْنَعْثُ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ اے اللہ میں نے آپ کا گھر بنادیا اسکو آباد کرنے والا صحیح دیجئے، مسجد بنادی نماز سکھانے والے کو صحیح دیجئے، مدرسہ بنادیا علم پڑھانے والے کو صحیح دیجئے، اے اللہ! اپنے محبوب کو صحیح دیجئے جو اس گھر کو آکر آباد کرے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا ہوں، اب یہ گھر کس طرح آباد ہوتا؟ اسکا طریقہ یہ بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں تھر رب کریم کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے اور اپنی الہمیہ کو میرے گھر کے قریب جا کر آباد کرو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ صابرہ کو لیا اور یہاں لا کر چوڑا، ساتھ میں جو کچھ موجود تھا وہ سامان یہاں رکھ دیا تو واپس جانے لگے تو ہاجرہ صابرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خاموش، پھر پوچھا، کیا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خاموش، وہ بھی صحبت یافتہ تھیں اور مزاج کو صحیتی تھیں، تیری مرتبہ انہوں نے یوں سوال کیا کہ کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اس وقت سر کے اشارہ سے تباہ کہ ہاں میں اللہ رب العزت کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہا؟ ہ صابرہ کا تو کل ایسا تھا، اللہ کے ساتھ یقین ایسا تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا یہ سن کر وہ فرمائے لگیں اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تب تو ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اب بات تو یہ محض روی ہے لیکن عورتیں ذرا دلوں میں سوچیں کہ اکیلی عورت ہے آج تو اکیلی عورت بند کمرے میں، اے سی کے کمرے میں لائیں جلی ہوئی ہیں پھر بھی ذرہ ہی ہوتی ہے کہ خاوند ابھی رفتہ سے نہیں آیا، میں تو گھر میں اکیلی بیٹھے ذرہ ہی ہوں آبادی میں گھر ہوتا ہے قریب میں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں مگر آج ذر کا یہ عالم ہے اور یہاں تو معاملہ ہی

اور تھا ایک چوکور عمارت بنی ہوئی ہے جو چورا ہا ہے اور قریب میں اور کوئی آبادی نہیں اب اس آبادی میں اپنی بیوی کو معموم دودھ پینے میٹے کے ساتھ چھوڑنا یہ کتنا برا کام ہے بہت بڑی آزمائش تھی، دودھ پینا بچہ اور بچہ تو ٹھیک ہے کہ ماں کا دودھ پئے گا اور ماں کو ہی اگر پینے کو کچھ نہ ملتا پھر اسکے سینے میں دودھ کہاں سے آئے گا، ابراہیم علیہ السلام نے اتنا برا قدام اٹھایا، یہ بہت بڑی قربانی تھی، اکیلی عورت کیسے رہے گی؟ جان کا خطرہ، عزت و آبرو کا خطرہ، پھر کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں نہ بزری ہے نہ پھل ہے اور خود ذخیرہ نہیں کہ ان کے پاس ذخیرہ ہو بس جو چند چیزیں تھیں وہی دے کر اللہ کے توکل پر ان کو رخصت کر کے آگئے، اسکو ایمان کہتے ہیں، مشاہدے کے خلاف کرنا یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے اسکو ایمان بالغیب کہتے ہیں، ہمارے جیسے کمزور لوگ ایسے امتحانوں میں یکسر فیل، ہی ہو جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا اور انہوں نے ایسا کردکھایا اور ہاجرہ صابرہ کی ہمت دیکھئے کہ کہنے لگی اگر آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جارہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے، چنانچہ یہاں رہنے لگ گئیں، چند دن کی بات تھی جو کچھ پانی تھا وہ ختم ہو گیا اب پینے کو پانی نہیں، بچہ روتا ہے ماں کے سینے میں دودھ نہیں کہ بچہ کو پلا میں، سو پئے کہ اس وقت ماں پر کیا گذری ہو گی ہاجرہ صابرہ کے دل پر کیا گذری ہو گی، وہ پریشان ہے بچے کو ایک پھر کے قریب لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ذرا دوڑ لکھیں، ذر بھی تھا کہ بیچھے سے کوئی درندہ آسکتا تھا جو بچے کو لفڑان پہنچاتا تو زیادہ دوڑ بھی نہیں جا سکتی تھیں چنانچہ انہوں نے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا، اور یہ دو ٹیلے نماں پہاڑیاں تھیں ایک پر چڑھیں اور ذرا دوڑ لیکھا کہ کوئی سبزہ نظر آجائے کوئی نشانی نظر آجائے تو وہاں سے پانی لے آؤں گی، نظر نہیں آیا پھر اتریں تو دوسری پہاڑی پر جانے لگیں جب درمیان میں پہنچی تو بچہ نظر سے او جھل ہو گیا تو ماں تھیں اب اس نے دوڑ نا شروع کر دیا، ہاجرہ صابرہ کی یہ دوڑ اللہ کو پسند آگئی چنانچہ آج بھی میلین اخضرین کے

درمیان جو جگہ ہے وہاں سب دوڑتے ہیں، کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی مفتی صاحب ہوں، کوئی بڑے عالم صاحب ہوں، جو بھی ہو، کہ تمہیں یہاں دوڑنا پڑے گا یہ میری ہاجرہ صابرہ کی نشانی ہے، اسکا دوڑنا پسند آیا میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک جو بھی یہاں آئے وہ اسکی یاد میں اسی طرح دوڑے، مجھے دوڑنا اچھا لگتا ہے، چنانچہ صفا و مروہ کے درمیان وہ دوڑیں، اس دوران بچہ شدت پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا جب اس نے پاؤں مارا تو اللہ نے رحمت کر دی کہ اسکے پاؤں سے اللہ نے یہاں سے زمزم کو جاری کر دیا، یہ زمزم اصل میں مکہ مکرمہ کی آبادی کا سبب بنا، ہاجرہ صابرہ نے جب واپس آ کر دیکھا تو انہوں نے پانی کو روکنے کی کوشش کی، رکتا نہیں تھا تو انہوں نے کہا ”زم زم“ رک جا، رک جا، تو یہ ایک چشمہ بن گیا ب جب یہاں پانی ملنے لگ گیا تو لوگ آہستہ آباد ہونے لگے تو اس طرح یہاں آبادی کا سلسلہ شروع ہوا، جواب ہمیں یہاں اتنا بڑا شہر نظر آتا ہے، تاہم اگر اس جگہ کو آبادی سے ہٹ کر دیکھیں تو وہی خشک پہاڑیاں ہیں،

تو سوال یہ ہے میں آرہا تھا کہ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو اپنے گھر کے لئے دنیا کے سب سے زیادہ گل و گلزار مقام کو پسند فرمائیتے، کشمیر کی وادیاں اسکے لئے بہت بہتر تھیں، شام کے باعثات بہت اچھے تھے، دریائے نیل کے کنارے بہت اچھے مقام تھے، اور جگہیں بہت تھیں، پھر اسی جگہ کو کیوں پسند کیا؟ علماء نے اسکا جواب لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کا جو محل اور دربار ہوتا ہے اس سے بادشاہ کی جلالت شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے اگر اللہ رب العزت گل و گلزار جگہ پر اپنا گھر بنادیتے تو تو اسکے جمال کا اظہار تو ہو جاتا مگر عظمت اور کبریائی کی اور جگہ کا تقاضہ کرتی ہے لہذا اللہ رب العزت نے خشک پہاڑ، بخت گرمی اور مکمل سکوت اور خاموشی والی جگہ کو پسند فرمایا، یہ چیز اللہ کے جلال کے عین مطابق تھی اور دربار میں جلالت شان کا ظاہر ہونا ضروری تھا، کہ ان خشک پہاڑیوں کے آگے پیچھے پھرو گے تو تمہیں اپنے

مالک الملک کی عظمت یاد آئے گی، اور واقعی ان مکہ مکرمہ کی پھاڑیوں کے سکوت میں بے اختیار اللہ یاد آتا ہے اسی لئے تو نبی ﷺ نبوت سے پہلے جبل نور پر تشریف لے جاتے تھے اور غار حراء کے اندر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے اسلئے اس مقام کو اللہ رب العزت نے اپنے لئے پسند فرمایا کہ یہاں پر اللہ کی عظمت، جلال اور کبریائی ظاہر ہوتی ہے، اور یہاں کا سکوت بندگی کے آداب کے میں مطابق ہے اور سکوت میں بندے کو اللہ یاد آتا ہے اسلئے العزت نے اس مقام کو پسند کیا۔

### شہر جدہ

یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر کے بالکل کنارے ایک شہر ہے جس کو جدہ کہتے ہیں، ہم اسی شہر کے واٹے سے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اسکو جدہ کہنے کی کوئی وجہ تو یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق اماں حوا کی قبر وہاں پر ہے اب بھی ایک جگہ نشاندہی موجود ہے، تو دنیا کی دادی وہاں پر مدفون ہیں، دادا کو جد کہتے ہیں اور دادی کو جدہ کہتے ہیں [فہیٰ جَدَّةُ جَمِيعِ الْعَالَمِ] تمام عالم کی دادی وہاں مدفون ہے تو اس شہر کا نام جدہ پڑ گیا، یہ جدہ بہت پرانے زمانے میں بھی ایک بندرگاہ تھی لوگ سمندر کا سفر کر کے آتے تھے اور یہاں آکر کچھ دری رکا کرتے تھے تو یہاں ساحل سمند پر ماہی گیروں کی سی کچھ آبادی تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوا کہ سمندری لیٹرے آئے اور انہوں نے حملے کئے تو انہوں نے ان سے حفاظت کے لئے بستی کے گرد ایک فصیل اور بڑی دیوار بنائی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے ہوئے ہوں اور کوئی آکر اپنے جہاز کو کھڑا کرے اور ہم پر حملہ کر کے سب کچھ لوٹ کر چلا جائے، تو یہ جدہ سمندر کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے گرد فصیل تھی اور لوگ یہاں رہنا اسلئے پسند کرتے تھے کہ عام سمندر کے پانی سے تو محچلیاں نکلتی ہیں اور یہاں کا پانی ایسا تھا کہ 『یَخْرُجُ مِنْهُمَا

اللّوٰهُ وَالْمَرْجَانُ یہاں سے ہیرے، موٹی اور مرجان نکلتے تھے، اسلئے اگر فضا سے سمندر کو دیکھا جائے تو یہ بزرگانی نظر آتا ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر بہت سارے قدرتی وسائل جمع کر دئے تھے اسی لئے لوگ یہاں رہتے تھے لیکن اس کو باقاعدہ شہر کی شکل سیدنا عثمان غنیؓ نے عطا فرمائی، روایت میں ہے کہ وہ یہاں تشریف بھی لائے اور قیام بھی کیا اور یہاں جدہ کے سمندر میں غسل بھی فرمایا اسی لئے تیرا کی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کی روایت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ عثمانی غنیؓ نے تیرا کی فرمائی تھی تو بہر حال ان کا تشریف لانا اور نہانا ثابت ہے اب دیکھئے کہ یہ ایک مستقل شہر ساختا پھر یہ شہربندرگاہ بنا تو بندرگاہ بننے کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ سمندر کے کنارے پر ایک ذیم جیسی چیز بنائی جائے چنانچہ اس کی جو فصیل تھی اسکی ساری اشیائیں اکھاڑ کر اسکو بندرگاہ بنادیا گیا اور اللہ رب العزت نے آج اس شہر کو وہ شان دی کہ اسکو بحیرہ قلزم کی دہن کا نام دیا جاتا ہے، ایسا جا ہوا شہر کہ یہ بحیرہ قلزم کی دہن ہے تاہم اس شہر سے ہم مکہ کرمہ کی طرف آتے ہیں تو چونکہ وہ ایک پشتہ ہے جو سمندر کے کنارے تین سو میٹر بلندی کا ایک دیوار نہ بنا ہوا ہے اسی پشتہ کی وجہ سے اس پورے علاقہ کو جواز عرب کہتے ہیں تاہم اسکو جواز کہتے ہیں چونکہ جواز کا مطلب ہوتا ہے پشتہ۔

## شہر مکہ کی عزت کا باعث

تو اللہ رب العزت نے شہر مکہ کو کیا عظمت بخشی،

یہ وہی شہر ہے جہاں نبی ﷺ محمد بن عبد اللہ سے بالآخر محمد رسول اللہ ﷺ کہلائے، یہ وہی شہر ہے جہاں وہی اتری، اسی شہر کے اندر صدقیق اکبر کا گھر، عمر کا گھر، خدیجہ الکبریؓ کا گھر، نبی ﷺ کی ہجرت سے پہلے کی مبارک زندگی کی تمام یادیں پیہم سے واپسی ہیں۔

لہذا اس شہر میں آتے ہوئے موسمن کا دل دھڑکتا ہے کیوں کہ آنے سے پہلے

زبان تذکرے کرتے کرتے نہیں ٹھکتی تھی اور جب آ جاتا ہے تو اس گھر کو دیکھ کر آنکھ آنسو بہاتے نہیں ٹھکتی، یہ عجیب یادوں کا شہر ہے اللہ کے پیارے جیبیں ﷺ کا شہر سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ ہجرت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا دل مغموم تھا آنکھ میں آنسو تھے اور آپ نے بیت اللہ کی طرف آخری نظر ڈال کر فرمایا کہ کعبہ تجھ سے جدا ہونے کو میرا جی نہیں چاہتا مگر کیا کروں مکہ کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس غم کی کیفیت میں اللہ کے جیبیں ﷺ یہاں سے جدا ہوئے تھے،

اسی جگہ وہ بیت اقم بھی ہے جہاں سے نبی ﷺ نے کندھ دیکر کلمہ کی تعلیم دینے کا عمل شروع فرمایا، اسی جگہ حمزہؑ آ کر مسلمان ہوئے، اسی جگہ عمر بن خطابؓ نے آ کر اسلام قبول کیا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی علیہ المصراۃ والسلام معراج کے لئے تشریف لے گئے، یہ باب ام ہانی ام ہانی کا گھر تھا جہاں سے نبی ﷺ تشریف لے گئے، تاہم ان تمام چیزوں کی کچھ نہ کچھ تفصیل زیارات مکہ کا جب بیان ہوگا اس وقت کریں گے، اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اس شہر میں جس کے ساتھ ہمارے جذبات کا تعلق ہے اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچا دیا اللہ۔ اگر اس شہر کی قسم کھائی ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ اللہ رب العزت نے اسکو بلدا امی ف ایا، سبحان اللہ، اتنا عظمت والا شہر، اور اس میں وہ گھر جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تو اللہ نے اپنے گھر کو بیتی کا نام پہنچا دیا، ہم اس گھر میں موجود ہیں اللہ فرماتے ہیں ﴿فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ پس تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔

### بڑے کا بڑا دربار

اب ہم یہاں جب آتے ہیں تو حرم کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے بلکہ آپ نے غور کیا ہو گا کہ حرم کے ہر دروازے پر میnar بننے ہوئے ہیں لہذا کبھی آپ دور سے کھڑے ہو کر دیکھا کریں وہ میnar اونچے لئے ہیں ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں لیکن اونچائی

زیادہ ہے تو بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی شہنشاہ کے دربار پر کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہو، بالکل وہی منظر لگتا ہے کہ اللہ نے دو مینار بنوادے اور بتا دیا کہ دیکھو یہ دعا مانگنے کی جگہ ہے آدم تم بھی یہاں پر دعا مانگو، یہ مانگنے کا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں پہنچا دیا، یہاں مؤمن آتے ہیں تو یک رخے دل لے کر آتے ہیں جیسے مقنا طیبی سوئی ہوتی ہے اس کا رخ ہمیشہ قطب شمال کی طرف ہوتا ہے مؤمن کا دل بھی اسی طرح مقنا طیبی سوئی کی مانند ہے اسکا رخ بھی اللہ کے گھر کی طرف ہوتا ہے سارے کے سارے لوگ اسی گھر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں،

تیراجلال و جمال حی القيوم کی دلیل  
وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل

اس گھر کو دیکھیں تو اس گھر کے اندر آپ کو بالکل یہی جمال اور یہی جلال نظر آئے گا، تو عام مساجد دربار عام ہیں اور یہ مسجد حرام دربار خاص ہے، یہاں ساری دنیا کے مسلمانوں کو آنے کی دعوت دی گئی چنانچہ سب آتے ہیں اور یہاں آکر اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔

## کعبۃ اللہ اور کالا رنگ

اللہ نے اسکے لئے کالے رنگ کو پسند فرمایا، پھر لگا تو بھی کالے رنگ کا اور اوپر غلاف پہنایا گیا تو وہ بھی کالے رنگ کا، سجان اللہ، وجہ کیا ہے؟ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ہر چیز روشنی کو ریفلکٹ کرتی ہے اور جو رنگ ریفلکٹ کر رہا ہوتا ہے وہی رنگ نظر آتا ہے یہ سبز ہے یہ سرخ ہے یہ فلاں ہے یہ توجو پوری روشنی کو ریفلکٹ کرے وہ ہمیں سفید نظر آتی ہے روشنی کے رنگ سبل جائیں تو سفید ہو جاتے ہیں اور جو سب کو جذب کر لے وہ کالی نظر آتی ہے، سجان اللہ، کالا رنگ پسند کیا کہ جو اللہ کی تخلیقات وارد ہوتی ہیں یہ ایسا مقام ہے کہ ان تمام تخلیقات کو جذب کر لیتا ہے آج کل گلاب کی بلیک قسم نکلی ہوئی ہے اس کو ”بلیک روز“

کہتے ہیں، کالا گلاب، واقعی اسکو ہم نے دیکھا بالکل بلیک، (ایکدم کالا) اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان اسکو دیکھ کر جیران ہوتا ہے، جب بھی بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اس کائنات کا بلیک روز (کالا گلاب) یہ عمارت نظر آتی ہے، اللہ نے بلیک روز دکھلا دیا کہ آؤ میرے بندو! ذرا اس کو محبت کے ساتھ دیکھو چنانچہ حج، عمرے کرنے والے آتے ہیں اور اس مکان کو دیکھتے ہیں اور ان کو سکون مل جاتا ہیں۔

## تمنائے دل جو پوری ہوتی

اسکو بنانے والا خلیل اللہ!

آباد کرنے والا محمد رسول اللہ ﷺ!

اور اسکی حفاظت کرنے والا خود اللہ!

دنیا میں بڑے بڑے محل بننے سب گر گئے بڑی پر شکوه عمارتیں بنیں سب گر گئیں یہ اللہ کا ایک ایسا گھر ہے اتنا سادہ بنوایا کہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے قیامت تک محفوظ رہے گا اللہ کا یہ ایسا گھر ہے اسی لئے نبی ﷺ آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف سراٹھا کر دیکھتے تھے اور دل میں یہ تمنا ہوتی تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو قبلہ بنادیجئے، اتنی محبت بھری نظروں سے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمادیا ﴿قَدْنَرِي تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ اے میرے محبوب!

جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہم اس وقت محبت کی نظر سے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے ہم نے آپ کی تمنا کو پسند کیا اور ہم نے پھر اس گھر کو قبلہ بنادیا، چنانچہ ابتداء میں بیت المقدس قبلہ تھا تو نبی ﷺ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا مگر نبی ﷺ رکن یہاںی اور حجر العسود کے درمیان والی جو جانب ہے ادھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اس طرح کہ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوتی تھی مگر بیت اللہ کو درمیان میں لے لیتے تھے تو قبلہ میں جمع ہو جاتے تھے، تو محبوب ایسے نمازاً ادا فرمائے تھے

پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ دونوں (مکہ اور بیت المقدس) کے درمیان میں سے تو اس وقت نبی ﷺ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے مگر چند مہینے کی بات تھی پھر اللہ رب العزت نے رحمت فرمادی اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آگیا چنانچہ بقیہ پوری زندگی اللہ کے محبوب اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، چنانچہ آج یہ ہمارے لئے قبلہ عالم ہے، سجان اللہ جیسے ایک قدیل جلتی ہے پروانے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں تو یہ بھی نور کی ایک قدیل ہے جو روشن ہے ظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتی لیکن

آنکھ والا تیرے جو بن کا تماسہ دیکھے

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

یہاں آکر سب انسان طواف کرتے ہیں مرد بھی طواف کرتے ہیں عورتیں بھی طواف کرتی ہیں اور طواف ہی یہاں افضل عبادت بن جاتی ہے جو صرف یہیں پر کی جاتی ہے۔

## کعبہ ولوں کا مقناطیس ہے

اب اس اللہ کے گھر کی ساتھ ہر مومن کو ایک محبت ہے آپ نے دیکھا ہو گا کہ مقناطیس لو ہے کے پرزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے جہاں بھی ہو، مقناطیس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لو ہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح بیت اللہ انسانوں کے دلوں کے لئے مقناطیس کی حیثیت رکھتا ہے یہ انسانوں کو اپنی کی طرف کھینچتا ہے چنانچہ پوری دنیا میں بھی کوئی کلمہ گو مسلمان ہو وسائل ہوں یا نہ ہوں، آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ آپ کے دل کی تمنا کیا ہے؟ کہے گا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کروں، غریب بھی کہے گا، مزدور بھی کہے گا، مرد بھی کہے گا، عورت بھی کہے گی، جوان بھی کہے گا، بوڑھا بھی کہے گا، اس سے پوچھو کہ آپ کے دل میں کوئی تمنا ہے

کیا دعا کریں؟ تو کہے گا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ اپنا گھر دکھادے، اصل میں دل تڑپ رہا ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ یہ گھر انسانوں کے دلوں کا مقناطیس ہے یہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔

## دکھڑے کس کو سنا میں؟

آنے والے سارے کے سارے امیر تو نہیں ہوتے بلکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے معلوم نہیں کتنی دعاؤں کے بعد، کتنی مشکلات کے بعد یہاں کے لئے سامان سفر اکٹھا کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں کسی کو ایک دفعہ موقع دیتے ہیں کسی کو دفعہ، اب ہمیں اللہ رب العزت نے اگر یہ موقع عطا فرمادیا تو ہمیں چاہئے کہ ہم اس وقت کو کیش کروانے کی کوشش کریں، عبادت میں لگانے کی کوشش کریں، عمرہ تو ہو چکا، اب بقیہ وقت یہاں پر رہ کر کیا کرنا ہے؟ دعا میں مانگنی ہیں، اللہ کو منانا ہے، دل کی حرمتیں جو تھیں وہ آج اللہ کے سامنے پیش کرنی ہیں، ہم ساری عمر جو لوگوں کے سامنے اپنی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کر دیا، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں آئے ہیں اپنے رب کو سنا میں، اپنے رب کے سامنے دعا کریں۔

چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حرم کے اندر بارہ جگہیں ایسی ہیں کہ وہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں ان شاء اللہ اکی نشاندہی بھی کر دیں گے تاکہ ان جگہوں پر جا کر آپ دور کعت نفل پڑھیں بیٹھ کر دعا میں مانگیں، یہاں بیٹھ کر اللہ سے مانگنا ہے، آپ اس دروازہ پر ہیں جہاں جو مانگو وہ ملتا ہے، ہاں مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا بندوق میں گولی بھری ہوئی ہو تو وہ چل سکتی ہے اسکے اندر کی طاقت ظاہر ہو سکتی ہے لیکن چلانے کا ایک طریقہ ہے اب کسی بندے کو چلانا ہی نہ آتا ہو پہپ ایکشن ہے وہ اسکو دباہی نہیں سکتا یا اسکو لوڑھی نہیں کر سکتا تو وہ بیچارہ کیا چلائے گا،

تو یوں بیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جگہ پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اب جب دینے کا ارادہ ہے تو مانگنا تو ہم کو ہے، ہم اللہ سے مانگیں، روکر مانگیں، بجدے میں پڑکر مانگیں، تھما مانگیں، اجتماعی طور پر مانگیں جیسے مانگ سکیں ہم اپنے رب سے خوب مانگیں، پھر دیکھیں اسکی برکتیں کیسے ظاہر ہوتی ہیں، اس جگہ پر ایسی دعا میں قبول ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے بہر حال یہ تفصیل ہم روز بتاتے رہیں گے کہ اللہ رب العزت کے کیسے آثار یہاں نظر آتے ہیں اور اگر بندے کو پتہ نہ ہو تو یہاں آکر بھی بندہ محروم چلا جاتا ہے۔

## غور کرنے کا مقام

آپ حیران ہوں گے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہم نے طواف کر کے سوچا کہ چلو بیت اللہ کے دروازے پر بھیڑ کم ہے تو دعا کے لئے ملتزم پر چلتے ہیں تو ہم دعا کے لئے گئے تو ہمارے قریب ایک نوجوان کھڑا تھا لگتا تھا کہ لا ہو کارہنے والا ہے اس کا فون آیا تو اس نے فون اٹھایا اب وہ فون پرباتیں کر رہا ہے تو کوئی اسکو بتا رہا ہے کہ فلاں یا مار ہے تو یہ اسکو کہنے لگا کہ اچھا اسکو "داتا در بار درگاہ" لے جاؤ اب یہ بندہ خود بیت اللہ کے دروازہ پر کھڑا ہے اسکو خود اس بات کا احساس نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس بات کو یہ بھول گیا فون پر کہہ رہا ہے کہ داتا در بار جا کر دعا مانگو اسکا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہنی طور پر احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس مقام پر آئے ہیں؟ اس مقام پر تو انسان کی زندگی بدلتی ہے، تقدیر یہیں بدلتی ہیں، مانگنا ہم نے ہے۔

## وقت کیسے گذاریں؟

تو اسلئے کوشش یہ کریں کہ اس وقت کو عبادت میں، تلاوت میں، طواف میں گذاریں، دن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات شیطان ذہن میں ڈالتا ہے

کہ ظہر کے وقت طواف کریں گے، نہیں ہم اس گرمی کے متحمل نہیں ہو سکتے، تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اکابرین نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا دن میں مرد لوگ جائیں اور حرم کی نمازیں پڑھیں اور عورتیں کروں میں رہیں وہیں نمازیں پڑھیں گی تو زیادہ ثواب ملے گا، البتہ عشاء کی نماز کے وقت محدث اوقت ہوتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ بھی جاسکتی ہیں اور اس وقت مطاف میں عورتوں کے جانے پر پابندی بھی نہیں ہوتی تو وہ بھی پر سکون دو تین طواف کریں، تلاوت کریں، بیت اللہ کو دیکھ کر دعا میں مانگیں یہ سب کام وہ وہاں کر سکتی ہیں تو ہماری ایک تجویز یہ ہے کہ عورتیں دن میں نہ لٹکیں، گرمی سے اپنے آپ کو بچائیں، یہاں جلدی ہو جائیں گی، بچے یہاں ہو جائیں گے، دن میں اپنے گھروں میں رہیں تلاوت کریں اور جب رات ہو تو پھر یہاں سے کھانا کھا کر تسلی کے ساتھ جائیں اور اگر پوری رات حرم میں گذاریں تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، بہت ہی اعلیٰ بات ہے اور کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں، عشاء کے بعد اس لئے کہتے ہیں کہ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ دن میں جو ذرا دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ حرم میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور عشاء کے بعد وہ اپنی اقامت گاہوں پر چلے جاتے ہیں تو حرم میں جگہ زیادہ خالی ہوتی ہے لوگ کم ہوتے ہیں تو کم ہونے کی وجہ سے طواف میں بھی آسانی ہو گی، باقی عبادت میں بھی آسانی ہو گی تورات کا وقت عبادت میں گذاریں اور پھر تہجد پڑھ کر بیشک عورتیں آجائیں یا اگر وہیں پر ہیں تو عورتوں کی جگہ جو بنی ہوئی ہیں وہاں پر فخر پڑھیں پھر واپس آجائیں لیکن اس رات کے وقت میں اللہ سے مانگنا اصل ہے آئے ہی، ہم مانگنے کے لئے، اسلئے کہ سائل کا کام مانگنا ہی ہوتا ہے اسکو مانگتے ہوئے کیا شرم، اسلئے اللہ سے مانگے اور خوب مانگیں اللہ رب العزت یقیناً عطا فرمائیں گے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسمی وقت کو اچھی طرح گذار نے کی توفیق عطا فرمائیں،

یہ جو چند انمول دن زندگی کے ہمیں ملے یہ ہماری زندگی کا پر امام نام ہے جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں زندگی کا ایسا پر امام نام بار بار نہیں ملتا اگر اللہ نے عطا فرمادیا تو اسکی قدر کریں، ہم نے دیکھا کہ یار لوگوں کو بازار کی دو کانوں کا پتہ ہوتا ہے اور گھر بیوں کی قیمتیوں کا پتہ ہوتا ہے اور حرم میں کس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ان مقامات کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس ایک طواف کیا اور سمجھتے ہیں کہ اب عمرہ ہو گیا ب باقی دن ہم نے بازار کے طواف کرنے ہیں چنانچہ عورتیں بھی خوب بازار کے طواف کرتی ہیں اگر نوٹ کیا جائے تو بازار کے طواف زیادہ ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے طواف تھوڑے کوششیں کریں کہ بیت اللہ کے طواف زیادہ ہوں، اپنے آپ کو ادھر تھکا میں، ادھر اللہ سے مانگیں، اللہ کو منا میں ہمارا یہاں پہنچ جانا ہی کافی نہیں ہے، پہنچ جانا ایک نعمت ہے پہنچنے کے بعد اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے رب کو منایتا یہ اگلی چیز ہے، اسکے لئے متفلکر ہونا چاہئے، چنانچہ استغفار میں زیادہ وقت گزاریں چلتے پھر تے کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں کچھ نہ کچھ زبان پر رہے۔

## ارادے پر پکڑ

اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں چونکہ شیطان یہاں آ کر بھی پیچھے لگا ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو یہاں آ کر آنکھ پیچ کرنے سے معدود بنا دیتا ہے، آنکھ پیچ ہی نہیں ہوتی اور جب آنکھ پیچ نہیں ہوتی تو ایک سے بڑھ کر ایک نقشہ نظر آتا ہے سارا دن کا کیا کرایا بد نظری کی وجہ سے ختم کروادیتا ہے، نہ دعاوں میں تاثیر رہتی ہے نہ عبادت میں مزہ آتا ہے جیسے آئے تھے ویسے واپس گئے، تو اسلئے اس عبادت کی حفاظت بھی کرنی ہے اسلئے فرمایا کہ باہر انسان گناہ کرے گا تو توبہ سزا ملے گی اور یہ حدود حرم ہے فرمایا ﴿وَمَنْ يُرِدُ ذِيَّهِ بِالْحَادِبِ ظُلْمٌ نُذِيقُهُ مِنْ عَذَابِ أَنِيمٍ﴾ یہاں ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے ہیں، گناہ کا ارادہ ہی نہیں کرنا

گناہ کی نیت سے کسی طرف دیکھنا ہی نہیں، شہوت کی نیت سے کہیں نظر ہی نہیں اٹھانی، ادھر نظر اٹھانے پر فوراً پکڑ فوراً عذاب اس لئے اس جگہ پر رہنا یہ بھی بہت احتیاط کی بات ہے تو ہم آداب حرم کا خیال رکھیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں، کسی سے نہ الجھیں، مسجد میں جائیں اور کوئی جگہ مانگنے تو آرام سے دے دیں ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسُحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ یہاں رہنے والوں پر تقدیمہ کریں، بس اپنے کام سے کام رکھیں اور عبادت کے ساتھ وقت گزاریں، اللہ نے یہ موقع دے دیا، گویا کہ بلینک چیز آپ کے ہاتھ میں پکڑا دئے جتنے دن اتنے چیک، اب اس پر لکھنا آپ کا کام ہے اس پر ہزار لکھیں، پچاس ہزار لکھیں، دس لاکھ لکھیں، ملیون بھی لکھ سکتے ہیں ملیون بھی لکھ سکتے ہیں اور ہم میں سے واقعی کچھ لوگ ملیون لکھ کر جائیں گے اور کچھ ملیون لکھ کر بھی جائیں گے اور کچھ وہ ہوں گے جو اس چیک کو ہی کٹوائیں گے فرمائیں گے تمہارا چیک قابل قبول نہیں اس لئے کہ تم تو ادھر ادھر شکلیں دیکھتے پھرے، تم کونسا بیٹھ کر میرا اگر دیکھتے تھے تو اس لئے معصیت سے بچ کر نیکی پر زندگی گزاریں تاکہ اللہ رب العزت کے اس گھر سے کچھ لیکر جائیں ارادہ اللہ کا خیر کا ہے تبھی تو اس نے آنے کی توفیق دی، وہ دینا چاہتے ہیں مگر مانگنا تو ہم نے ہے، اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور بقیہ وقت کو خوب عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَآمِرُ رَدْعَوْنَانَ الْمُمْدَلَلَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

# یہ جان! آقا کی نذر ہے!



يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنتَ فِي التُّرْبِ أَعْظَمُهُ  
 فَطَابَ مِنْ طِبِّهِنَّ الْقَاعُ وَالْأُكُمُ  
 نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ  
 فِيهِ الْغَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

- اے ان لوگوں میں سب سے افضل جن کے اجساد شریفہ آسودہ خاک  
ہیں، جن کی برکت سے دشت و جبل پا کیزگی سے مشرف ہو گئے ہیں۔
- اس قبر اقدس پر میری جان قربان ہے جس میں آپؐ تشریف فرمائیں یہیں  
عفت ملی ہے اور یہیں جود و کرم (کاخ زانہ) ہے۔



﴿وَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي يَبَغُونَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾

# غلاف کعبہ اور حجر اسود کی تاریخی حیثیت

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی جحدوی دامت برکاتہم

## فہرست عنوانوں

شمار	عنوان	صفحہ
۱	عبادت کے لئے پہلا گمراہ	۷۶
۲	تاریخ خلاف کعبہ	۷۶
۳	خلاف کب بدلتے ہیں؟	۷۷
۴	حکمت خلاف	۷۸
۵	ایک عجیب تاریخ	۷۹
۶	آنے والے نے کیا دیکھا؟	۸۰
۷	نسبت سے فرق	۸۲
۸	اس است پر اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں	۸۲
۹	ایک علمی عکس نئے	۸۳
۱۰	مامدہ کا سوال	۸۳
۱۱	بن مائے جبراں کا تختہ	۸۳
۱۲	جبراں کی شان	۸۵
۱۳	شاہزادی الدینؑ کی رفعہ نظر	۸۶
۱۴	کیا مبارک اہتمام کیا	۸۷
۱۵	کعبہ کا پڑوی کون؟	۸۷
۱۶	مقام ابراصم	۸۸
۱۷	ایک واقعہ	۸۹
۱۸	آخری بات	۹۱

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

## اقتباس

﴿از افادات﴾

اللَّهُ نَّعَمْ أَبْنَيْنَاهُ كَمْ كَيْوْ پِسْنَدْ کِيَا؟ اَسْ لَئَنْ کَه  
اَيْكَ پِیغَامْ دِینَا تَحَا کَه مِيرَ بَندَوْ دِیکَھوَا سَکُو مِیں بِیتِی  
کَبَدَرْ ہَا ہُوں، اپنا گھر کَبَدَرْ ہَا ہُوں، اَسْ لَئَنْ کَہ اَسَکَنَه اَنْدَر  
پَچَنْہیں تو مِیرِی تَجَلِیاَت اَسْ گھر پِر نَازَلْ ہوتی ہیں اَگر تم  
چَابَتْ ہو وہ تمہارے دلوں پِر نَازَلْ ہوں تو تم بھی اَبْنَی  
دَلْ کَو غَیرَ سے خَالِی کَرْ لو

بَتوُں کَو تو رِتَخِیلَ کَے ہُوں کَہ پَتَھَرَ کَے

حضرت مولانا پیر  
حافظ ذوالفقار احمد صاحب  
نقشبندی مجددی زید مجدد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين الصطفى، اما بعد!

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِيَكْهَةٍ مُبَارَّكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾

سبحان رب العزت عم اي صفون وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العلمين

اللهم صلی على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم

اللهم صلی على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم

اللهم صلی على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم

عبادت کے لئے پہلا گھر

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِيَكْهَةٍ﴾

پیشک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ بکتہ تھا، بکہ بیت اللہ کے گھر کا نام  
ہے اور مکہ شہر کا نام ہے، یہ سب سے پہلا گھر تھا سما مطلب یہ ہے کہ عبادت کی نیت  
سے بنایا جانے والا پہلا گھر تھا،

رہائش کے لئے تو پہلے بھی لوگوں نے گھر بنائے، لیکن سب سے پہلے جو گھر عبادت  
کی نیت سے بناؤہ کعبۃ اللہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اسکو تعمیر کیا پھر اسی تعمیر  
پر یہ مکان بنتا چلا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی بنیادوں پر اسکو دوبارہ  
تعمیر کیا پھر قریش مکہ نے نبی ﷺ کی نبوت کے اظہار سے پہلے اسکو تعمیر کیا، تو دنیا میں  
عبادت کی نیت سے سب سے پہلے جو گھر بناؤہ بیت اللہ تھا۔

تاریخ خلاف کعبہ

شروع میں اسکے اوپر خلاف نہیں ہوتا تھا پہلی مرتبہ یمن کے ایک بادشاہ تیج حمیری

نے اسکے اوپر غلاف چڑھا دیا، یہ نبی ﷺ کی تشریف آوری سے نو سوال پہلے کی بات ہے اور یہ چلتا آیا قریش نے اپنے زمانہ میں اس کے اوپر ریشم کا غلاف چڑھایا، نبی ﷺ نے اسکے اوپر یمنی مصری چادر کا غلاف چڑھایا چونکہ نبی ﷺ نے اس عمل کی تصدیق فرمادی اسلئے اب یہ ایک شرعی چیز ہو گئی، پھر عباسی خلفاء نے اسکے اوپر سیاہ رنگ کے غلاف کو پکا کر دیا، پہلے کبھی سیاہ رنگ بھی ہوتا تھا کبھی سبز رنگ کا بھی ہوتا تھا، اب بھی آپ اگر دیکھیں تو بیت اللہ کے باہر کی طرف جو اف ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے اور جواندر کی طرف ہو گا وہ آپ کو سبز رنگ کا نظر آئے گا، ان شاء اللہ امید ہے کہ آپ ”کسوہ الکعبہ“ ایک جگہ ہے جہاں بیت اللہ کا غلاف بنتا ہے وہاں زیارات کے دوران تشریف لے جائیں گے اور غلاف کو خود اپنی آنکھوں سے بتا دیکھیں گے، پیریشم کے دھاگے سے بتا ہے اور اس پر جو لکھائی ہے وہ سونے کے تاروں سے ہوتی ہے، اس وقت یہ غلاف بہت وزنی ہوتا ہے اسکے اوپر سات سو کلو گرام ریشم لگتا ہے، اور اس کا کل وزن دو ٹن کے قریب بخاتا ہے یہ دو ٹن وزنی لباس ہر سال بیت اللہ کو پہنایا جاتا ہے۔

## خلاف کب بدلتے ہیں؟

عام طور پر جب حاجی لوگ عرفات میں پلے جاتے ہیں اور یہاں طواف کرنے والے بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں اس وقت یہ کام کیا جاتا ہے، اسی لئے جب طواف زیارت کے لئے واپس آتے ہیں تو بالکل نیا غلاف ہمیں نظر آتا ہے۔

## خلاف کا مطلب

کسوہ کا مطلب ہوتا ہے لپٹی ہوئی چادر اسکو کسوہ الکعبہ کہتے ہیں یعنی کعبہ پر لپٹی ہوئی چادر، یوں سمجھ لیں یہ بیت اللہ کا احرام ہے یاد و سرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ یہ بیت اللہ کا بر قعد اور حجاب ہے۔

## حکمت غلاف

آسمیں کیا حکمت ہے؟

(۱) ..... ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب انسان بیت اللہ شریف کے قریب جاتا ہے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دامن محظوظ کو پکڑ کر، اس سے لپٹ کر اپنی فریاد بیان کر رہا ہوں، محظوظ کا دامن پکڑ کر اپنی فریاد کہنا اس سے انسان کی یکسوئی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، چنانچہ نبی ﷺ سے بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگنا ثابت ہے۔

(۲) ..... اور دوسرا حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن کو ہمیشہ پرداز میں ہی پسند فرمایا ہے یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن کے لئے پرداز کو پسند کیا ہے، مبتدی لوگوں کے لئے یہ اہم بات ہے ورنہ ان کے دل کی بجائے اُنکی آنکھ قابو میں نہیں ہوتی، یا لوگ جس محبت کے ساتھ غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ نہ کہا جاتا کہ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہ دیکھیں تو پتہ نہیں کہ بیت اللہ سے لپٹ لپٹ کر ان کا کیا حال ہوتا۔

کمال جوش جنوں میں رہا میں گرم طواف  
خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف

یہ اللہ کا شکر ہے کہ حرم کا غلاف سلامت رہتا ہے ورنہ تو دیوانے معلوم نہیں کیا کر ڈالتے، اسلئے اللہ رب العزت نے یہ ادب بھی سکھا دیا کہ طواف کے دوران تم نے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا، تاہم جی چاہتا ہے کہ انسان غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگے اور جب مانگتے ہیں تو اس وقت آنسو اپنے قابو میں نہیں ہوتے، واقعی ایسا لگتا ہے جیسے محظوظ کے دامن سے لپٹ کر انسان اپنی فریاد کہہ رہا ہو، اپنے دل کا سارا غم اپنے محظوظ حقیقی کو بیان کر رہا ہے تو نونیاز کیلئے حباب ہی اوی ہے کہ

دل سے بڑھ کر ہے اُنکی نگاہ بے قابو

کسی نے کہا۔

حجاب اکسیر ہے آوارہ کوئے محبت کو  
میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی

## ایک عجیب تاریخ

قریش کے زمانے میں بھی یہ غلاف ہوتا تھا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی ﷺ ایک مرتبہ رات کے وقت مجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی سمت میں کھڑے قرآن مجید پڑھ رہے تھے اسی وقت عمر بن خطاب ٹرم میں آگئے ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص کیا پڑھتا ہے؟ چنانچہ وہ ایک طرف سے غلاف کعبہ کے اندر چلے گئے اور آہستہ آہستہ اندر ہی اندر چلتے چلتے اسی جانب پہنچ گئے جہاں نبی ﷺ بیت اللہ کے قریب کھڑے قرآن کی تلاوت فرمائے تھے چنانچہ نبی ﷺ وہ سورت پڑھ رہے تھے جس میں کافیہ، حسابیہ، راضیہ، کتابیہ یہ الفاظ تھے جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ سوچنے لگے کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں تو جیسے ہی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کسی شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں تو نبی ﷺ نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی ۴۰ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ كہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ کسی کا ہن کا کلام ہو گا تو نبی ﷺ نے فوراً آیت پڑھی ۴۰ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ كَاهِنٍ کہ کسی کا ہن کا بھی کلام نہیں ہے تو عمر گھبرا گئے کہ ادھر میرے دل میں خیال آتا ہے اور ادھر وہی الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو یہ کلام تو کوئی اہم بات ہے، چنانچہ وہ غلاف کے پچھے سے نکل کر گھر کو چلے گئے مگر سوچتے گئے، یہ وہ رات تھی جس سے اگلے دن قریش مکہ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے پیغمبر کا کام تمام کراؤ اور یہ تکوار لے کر نکلے تھے جب تکوار لے کر نکلے تواریخ میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں جاہاں قصہ ہی قصہ کراؤں کہ نہ رہے

بانس نہ بجے بنسری، انہوں نے کہا جاؤ زرالاپنی بہن کی خبر لوہہ مسلمان ہو چکی، تو یہ بہن کے گھر آگئے پھر انہوں نے اپنے بہنوئی کو کہا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر اسلام حق اور رحیم ہے تو یہ کو قبول کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ یہ اپنے بہنوئی کو مارنے لگ گئے، بہن بچانے آئی تو انہوں نے بہن کے بھی تھپٹر لگایا تو بہن بھی گر پڑی پھر کھڑی ہوئی وہ بھی آخر عمر ابن خطاب کی بہن تھی تو بہن نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ [اے عمر! جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جسم سے جان تو نکال سکتا ہے ایمان جسم سے نہیں نکال سکتا،] یہ وہ الفاظ تھے جو بھل بن کر گرے اب خیال تو پہلے سے تھا کہ یہ کوئی خاص کلام ہے تو اپنی بہن سے کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی سنا کہ تم کیا پڑھ رہی تھیں اس نے کہا تو پاک نہیں ہے پہلے غسل کر کے پاک ہو پھر تو اس کلام کو سن کے گا، چنانچہ انہوں نے غسل کیا پھر پوچھا کہ وہ کلام سنا تو اس پر وہ صحابی نے وہ کلام سنایا ﴿هُطْهَ مَا تَنْزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ لِتُشْفَقَى إِلَهٌ كَرِيمٌ لَمَنْ يَخْشَى هُنَّ بَهْرَ سَنَتِهِ جَبْ اس آیت پر پہنچے ﴿هُنَّى إِنَّى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ اللہ نے دل کے تالے کھول دیئے کہنے لگے اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھا تو میں بھی مسلمان بنتا ہوں۔

## آنے والے نے کیا دیکھا؟

تو یہ غلاف کعبہ بہت پہلے سے ہے اسلام نے نوسال پہلے سے اسکی تاریخ شروع ہوتی ہے چنانچہ ایک مرتبہ قریش مکہ کے سرداروں میں سے ایک آدمی آیا جس کا نام عیف تھا وہ کندہ کار بنے والا تھا اس نے آکر بیت اللہ کے قریب ایک عجیب منظر دیکھا کہ بیت اللہ کے دروازہ کے قریب یعنی مقام ابراہیم پر نبی ﷺ کھڑے ہیں اور آپ کے پیچے ایک سولہ سال کی عمر کا نوجوان لڑکا کھڑا ہے اور اسکے پیچے ایک عورت کھڑی ہے اور نبی ﷺ جو کر رہے ہیں لڑکا بھی وہی کرتا ہے

اور عورت بھی وہی کرتی ہے اسکو یہ دیکھ کر بڑا تجھب ہوا چنانچہ وہ عباسؑ کو ملا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑا اوقعت پیش آنے والا ہے انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں بیت اللہ گیا تھا میں نے بیت اللہ کے قریب ایسا ایک منظر دیکھا، انہوں نے کہا ہاں وہ جو آگے کھڑے تھے وہ محمد بن عبد اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ تھے اور ان کے پیچے جو لڑکا کھڑا تھا وہ اپنے ہی گھر کا بچہ ہے اسکا نام علی ہے اور جو پیچھے عورت تھی وہ ان کی بیوی ہے اسکا نام خدیجہ ہے اصل میں جبریل علیہ السلام نے جب نماز کا حکم دیا تو نبی ﷺ کو نماز پڑھنا بھی سکھایا، نبی ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے وہاں نماز یکھی پھر آپ جب نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پیچے حضرت علیؓ ہوتے تھے اور ان کے پیچے آپ کی اہمیہ خدیجہ الکبری ہوتی تھیں تو یہ نماز کا منظر دیکھ کر وہ قریشی سردار اتنا متاثر ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا اوقعت پیش آنے والا ہے آج بھی اگر آپ بیت اللہ شریف کے دروازے سے تھوڑا ہفت طرف دیکھیں تو وہاں نیچے بنیادوں پر کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک جگہ چھوٹے پائچ چھپتھر لگے ہوئے نظر آئیں گے، تقریباً یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی ﷺ نے سب سے پہلی نماز پڑھی تو کوشش کریں اگر موقع مل سکے تو وہاں دور کعت نفل پڑھیں، عورتوں کے لئے تو ذرا مشکل ہوتا ہے تاہم رات کو تو ہم نے عورتوں کو بھی وہاں نماز پڑھتے دیکھا، اور اللہ سے یہ دعائیں کہ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب ﷺ نے امت کو نماز پڑھنی یہاں سکھائی میں بھی دور کعت پڑھ رہا ہوں مجھے بھی صحیح طریقہ سے نماز پڑھنا سکھا و تجھے، اے اللہ! نماز کا خشوع اور خضوع مجھے بھی عطا فرمادیجھے، مقام احسان والی نماز عطا فرمائیے جس کے بارے میں آپ کے نبی ﷺ نے فرمایا [ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه يراثك] اللہ مجھے بھی زندگی میں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمادیجھے توجہ اسی جگہ پر جا کر آپ دعائیں گے تو نسبت تو بہت بڑی چیز ہے، نسبت سے تو عزتیں ملتی ہیں،

نسبت سے تو نعمت جلدی ملتی ہے۔

## نسبت سے فرق

نسبت کی بات چلی تو آپ غور کریں کہ دو ایشیں ایک ہی بھٹے پر بنتی ہیں ایک جیسا رنگ ہے ایک جیسا سائز ہے ایک جیسی ڈیزائن ہے قیمت بھی ایک جیسی ہے ایک اینٹ کو لا کر آدمی مسجد میں لگا دیتا ہے جو بیت اللہ کھلاتی ہے اور ایک کوبیت الخلاء میں لگا دیتا ہے دونوں کی نسبت الگ ہو گئی ایک کی نسبت بیت اللہ سے ہو گئی اور ایک کی نسبت بیت الخلاء سے ہو گئی، جس کی نسبت بیت اللہ سے ہوئی اس کو تو یہ عظمت ملی کہ اس اینٹ کے اوپر اپنی پیشانی ملکتا ہے اور جو بیت الخلاء میں لگ گئی وہ صاف بھی ہوتا بھی انسان جوتے بغیر وہاں پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ادھر جوتے کے ساتھ پاؤں رکھتا ہے ادھر پیشانی ملکتا ہے، نسبت نے دونوں اینٹوں کی عزت میں بڑا فرق ڈال دیا تو یہ نسبت تو بڑی چیز ہے۔

## اس امت پر اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں

چنانچہ دیکھئے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا نعمتیں دیں اور امت محمد ﷺ کو اللہ نے کیا نعمتیں دیں

بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ﴿إِنَّ مَعِي زَبْدٌ﴾ میرا رب میرے ساتھ ہے حالانکہ پوری قوم ساتھ ہے مگر وہ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ مَعِي زَبْدٌ﴾ میرا رب میرے ساتھ ہے

اور اس امت کو دیکھئے اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا کہ صدقیق اکبر غارثور میں نبی علیہ المصراۃ والسلام کے ساتھ ہیں تو نبی ﷺ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَّا﴾ اللہ ہمارے ساتھ ہے وہاں کیا فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے امت کا تذکرہ نہیں اور یہاں پر نبی ﷺ کیا فرماتے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَّا﴾ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

## ایک علمی نکتہ سنئے

حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سنانے پر ان کو فرمایا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کونہ بتانا تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کریں، اس لئے کہ یہ انسانی فطرت ہے اور پھر اسکے بعد فرماتے ہیں ﴿وَكَذِلِكَ يَجْعَلُكَ رَبُّكَ هُوَ أَحَدٌ﴾ اور ایسے ہی تیرا رب تجھے اپنے لئے خاص کر لے گا، یعنی انہوں نے ایک ایسا صیغہ استعمال کیا کہ ”کر لے گا“ اور اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ وہ جس نے تمہیں اپنے لئے خاص کر لیا ادھر مستقبل کا صیغہ اور ادھر ماضی کا صیغہ، سبحان اللہ جو علم کے ساتھ ذوق رکھنے والے ہیں وہ اس فرق کو محسوس کریں گے کہ التدرب العزت کا اس امت پر کتنا احسان ہے کہ وہاں ایک نبی کے بارے میں ایک نبی فرماتے ہیں ﴿وَكَذِلِكَ يَجْعَلُكَ رَبُّكَ هُوَ أَكْبَرُ﴾ اور یہاں پر اللہ پوری امت کے بارے میں فرماتے ہیں ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ وہ ذات جس نے تمہیں اپنے لئے پسند کر لیا، امت محمدیہ پر التدرب العزت کی یہ رحمتیں ہیں۔

## مائندہ کا سوال

چنانچہ اور اس طرح کے کئی نکات ہیں لیکن اصل مقصد کی طرف آئیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے مائدہ (درخوان) نازل کیا، امت نے درخواست کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ﴿رَبَّنَا انْزَلْتَ عَلَيْنَا مَا إِنَّدَقَّ مِنَ السُّمَاءِ﴾ ہمارے لئے آسمان سے مائدہ اتار دیجئے، یہ جو مائدہ کا لفظ ہے یہ کھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے ”اور ہمارے پنجابی زبان میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے ہم اسے میدا کہتے ہیں، آئٹے میں سے رفائنڈ آٹا نکال لو تو اسکو میدا کہتے ہیں وہ بھی کھانے کی چیز ہے بنیادی طور پر یہ کھانے کا لفظ ہے جو ہماری زبان کے اندر آگیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مائدہ کھانے کی چیز عطا فرمائی، آسمان سے نازل

## حجر اسود کی شان

اب ذرا غور کیجئے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ حجر اسود دنیا میں اللہ رب العزت کا دارہ نہاتھ ہے اور اس پر پھر محدثین نے لکھا کہ روایت میں آیا ہے کہ جس شخص کو نبی ﷺ کا زمانہ نہیں سکا اگر اس نے آ کر بیت اللہ کے اس پتھر کو یعنی حجر اسود کو بوسہ دے دیا تو اس کو اللہ سے اور نبی ﷺ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی سعادت عاصل ہو گئی، یہ اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا عمل ہے کہ جس نے نبی ﷺ کا زمانہ نہیں پایا اور اس نے حجر اسود کو چھولیا یا بوسہ دے دیا اس نے گویا اللہ رب العزت اور حضور اکرم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

آج کسی کام کو محفوظ کرنا ہوتا ہے تو ویڈیو کیمرے کے سامنے لاتے ہیں جیسے ایسی گریشن سے نکلتے ہیں تو پاسپورٹ چیک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذرا کیمرے کے سامنے آجائیں، اسکو محفوظ کرتے ہیں، اسی طرح حجر اسود انسان کے قلبی احوال دلکشیات کو محفوظ کر لیتا ہے چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی ﷺ کے ہاتھ پر دو ہزار لوگوں نے ایک دن میں بیعت کی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی ﷺ اس کو نے پر بیٹھے جہاں حجر اسود ہے اور پوری قوم بالکل حجر اسود کے سامنے تھی اور یہیں بیٹھ کران سے نبی ﷺ نے بیعت لی تو اگر ان لوگوں نے اسی جگہ بیٹھ کر نبی ﷺ سے بیعت لی تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی حجر اسود والی لائن کے اوپر دور کعت نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے توبہ کریں اور دعا نگیں کہاے میرے اللہ! تیرے محبوب کے ہاتھوں پر ایک وقت قریش نے آ کر توبہ کی تھی میں اس امت کا ایک گنہگار بندہ آج ایسے وقت میں پہنچا جب کہ تیرے محبوب ﷺ دنیا میں نہیں، میں بھی اسی جگہ آ کر بیٹھا ہوں، اسی ویڈیو کیمرے کے سامنے جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں جو آپ کی رحمت کا دایاں ہاتھ ہے اور اے اللہ میں بھی یہاں بیٹھ کر آج پچ دل سے توبہ کر رہا ہوں آپ میری اس توبہ کو قبول فرمائیجئے، یقیناً اللہ کی طرف

فرمائی، اس امت کو اس پر بڑا ناز تھا کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چیز نازل کر دی،

## بن مانگے حجر اسود کا تحفہ

ذرا توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے امت محمد یکے لئے آسمان سے حجر اسود کو اتارا، اور اس حجر اسود کو بیت اللہ کے کونے پر لگوادیا، اب وہ کھانے پر ناز کرتے ہیں جو کچھ عرصہ کے لئے تھا اور کچھ لوگوں کو ملا، اللہ نے امت کے سب لوگوں کے لئے اور ہمیشہ کے لئے ایک نعمت اتار دی، چنانچہ نبی ﷺ تشریف لائے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اب بوسہ سے نسبت مل گئی، آسمان سے اتری ہوئی چیز تھی محظوظ کے بوسے نے اس پر ”نور علی نور“ کا کام کر دیا چنانچہ آج پوری امت اس بوسے کی یاد تازہ کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے، عمر ”بھی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دے کر گویا کہتے ہیں۔

تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر  
کہ اے اللہ کے جبیب ﷺ! آپ نے جو بوسہ دیا تھا اس بوسے کو ہم بوسہ دے رہے ہیں

تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر  
و گرنہ کام کیا تھا، ہم مسلمانوں کو پھر سے  
ہم مسلمانوں کو پھر سے کیا کام تھا، ہم پھر کو پوچنے والے نہیں ہیں، ہم تو تیرے بوسے کو بوسہ دیتے ہیں نبی ﷺ نے بوسہ دیا آج بھی دیکھوامت اس حجر اسود کو بوسہ دینے کے لئے کیسے تزپر ہی ہوتی ہے، جائیں تو وہاں لوگوں کا جذبہ دیکھیں جنون دیکھیں، جیسے دیوانہ وار لوگ آتے ہیں اور مرد تو مرد عورتوں کا بھی حال وہی ہوتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لئے دیوانے، اللہ اکبر تو بوسہ کی نسبت سے اللہ نے اس کی شان بڑھا دی۔

سے رحمت ہوگی اور اللہ رب العزت تو بہ کو قبول فرمائیں گے، یہ جو عمرہ کے زائد دن ہیں یہ انہیں کاموں کے لئے ہیں، ہم ایسی جگہوں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا میں مانگیں، جو ذہونہ نے والے ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کی نگاہ کہاں پہنچتی ہیں۔

## شاہ رفع الدین کی رفتہ نظر

دارالعلوم دیوبند کے دوسرے مہتمم گذرے ہیں ان کا نام رفع الدین تھا، بڑے صاحب حال اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، حرم تشریف لائے اور یہاں قیام کیا اب ذرا سوچنے کے انکی سوچ کہاں پہنچی، ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ نبی ﷺ نے بیت اللہ کی کنجی بنو شیبہ کو عطا کی تھی، یہ ایک قبیلہ ہے جن کے پاس پہلے سے یہ کنجی تھی نبی ﷺ نے فتح مکہ کے بعد کنجی انہی کو دیدی اور فرمادیا کہ یہ کنجی قیامت تک تمہارے ہی قبیلہ میں رہے گی، یہ تصدیق بھی فرمادی چنانچہ آج بھی بیت اللہ کی کنجی ان کے پاس ہے، اگر کوئی پادشاہ بھی آتا ہے تو دروازہ کھولنے کے لئے وہی خاندان بنو شیبہ کا بندہ آتا ہے اور وہ بھی بردار دروازہ کھولتا ہے، تو شاہ رفع الدین کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ خاندان بھی مکرمہ میں ہی رہے گا اور نبی ﷺ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انکے پاس چابی بھی رہے گی چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کے کنجی بردار کے ساتھ دوستی لگائی، واقفیت بنائی تعارف کیا، ہدیہ یہ تھہ دیا، بات چیت کی حتیٰ کہ چند نبووں میں آپس میں خوب انسیت اور محبت ہو گئی، جان پہنچان ہو گئی، جب جانے کا وقت آگیا تو اداں دل کے ساتھ جب ان سے ملنے لگے تو ان کا دل بھی اداں تھا کہا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں، کوئی کام ہمارے ذمہ، تو بتلا یئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب انہوں نے یہ کہا تو فرمانے لگے کہ ہاں ایک کام ہے اگر آپ کر دیں تو؟ کونسا؟ وہ کام یہ ہے کہ یہ کچھ پیسے ہیں یہ تو آپ کے لئے ہدیہ ہے اور یہ ایک تکوار ہے یہ امانت ہے، کیا مطلب؟ جیسے چابی تمہارے خاندان میں چلتی رہے گی یہ تکوار بھی امانت کے طور پر آپ اپنے

خاندان کے حوالہ کر دیں، وہ اس تکوار کو بھی حفظ رکھیں، جب حضرت مہدی آئیں گے اور آپ کے خاندان کا جو شخص ہو گا وہ جیسے ان کے لئے دروازہ کھولے گا میری طرف سے ان کو یہ تکوار کا ہدیہ پیش کروے گا، اللہ اکبر، دیکھو محبت انسان کی سوچ کو کہاں لے جاتی ہے، یہ فرق ہے ہم میں اور اہل اللہ میں، کہ ہم آتے ہیں اور عمرہ کیا اور فارغ، اب بازار ہے اور ہم طوفین اور طوافات ہیں، صبح شام بن داؤد کا طواف ہو رہا ہے اور جو اللہ والے ہیں ان کا دل حرم میں انکار ہتا ہے۔

### کیا مبارک اہتمام کیا

چنانچہ حضرت قاری رحیم بخش پانی پی فرماتے ہیں کہ جب میں عمرہ کے لئے حرم حاضر ہوا تو میں جتنے دن حرم میں رہا میں نے ہر نماز پہلی صفائی میں امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، اب یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہم تو ایک نماز بھی پہلی صفائی میں پڑھ لیں تو بڑی ہمت کی بات ہے، اور پہلی صفائی نہیں بلکہ امام کے پیچھے اور پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ! مجھے تو لگتا ہے کہ وہ وہیں بیٹھے رہتے ہوں گے، اگر کوئی ضرورت ہوتی ہوگی تو عشاء اور فجر کے درمیان باہر نکلتے ہوں گے ورنہ تو مسجد میں ہی رہتے ہوں گے، ایسا وقت گذار انہوں نے۔

### کعبہ کا پڑوی کون؟

چنانچہ علام زمشری جہنوں نے تفسیر کشاف لکھی جس کے بارے میں شاعر نے کہا۔

تیرے وجود پر نہ ہو جب تک نزول کتاب  
گرہ کشاں ہیں نہ رازی نہ صاحب کشاف

وہ علامہ زمشری جب تشریف لائے تو اتنا حرم میں رہتے تھے کہ عرب لوگوں نے ان کا نام ”جار اللہ“ اند کا پڑوی رکھ دیا، اب سوچیں کہ کتنا وقت بیت اللہ کے پاس گذارتے ہوں گے کہ لوگوں نے ان کو پڑوی کہا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے،

کاش ہم بھی حرم میں ایسے وقت گذارتے،  
توبات چل رہی تھی نسبت کی، مجر اسود کو نبی ﷺ کے بو سے کی نسبت حاصل ہے

### مقام ابراھیم

مقام ابراھیم کو سیدنا ابراھیم علیہ السلام کے پاؤں سے لگنے کی نسبت حاصل ہے،  
کہتے ہیں یہ ایک پتھر تھا کہ حضرت ابراھیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواروں  
کو تعمیر کیا تو پتھر اونچے اونچے پتھر رکھنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے اس پتھر کو  
ایسا بنا دیا کہ جتنی ضرورت ہوتی تھی یہ پتھر اتنا اونچا ہوتا تھا اور وہ پتھر وہاں  
رکھتے جاتے تھے اسکے اوپر ان کے قدموں کے نشانات ہیں وہ آج بھی محفوظ ہیں،  
لیکن مقام ابراھیم کا یہ پتھر پہلے ایسے ہی پڑا ہوتا تھا لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر  
فاروقؑ کے زمانے میں سترہ بھری میں بارش کی وجہ سے بڑا سیلا ب آیا اور اس  
سیلا ب میں یہ پتھر بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور چلا گیا اب عمر فاروقؑ کو پریشانی  
ہوئی، ایک تو اس پتھر کو ڈھونڈیں اور وہ سرا سکو بعینہ اسی جگہ پر کھیں جہاں نبی ﷺ کے  
کے زمانے میں تھا، بڑی حیرانی اور بڑی پریشانی ہوئی،

اب سوچیں یہ تھی فرات رکھنے والے صحابی ہیں چنانچہ تلاش کیا اللہ نے مہربانی  
کر دی کہ اجیاد کی طرف سے یہ مقام ابراھیم والا پتھر مل گیا تو جب مل گیا تو انہوں  
نے کہا کہ اب کون سے جو مجھے یہ بتائے کہ اس کی متین جگہ کوئی تھی؟ اندازہ تو سب  
کو معلوم تھا لیکن بالکل صحیح جگہ معلوم نہیں تھی، چنانچہ اس وقت بنو احمد کے ایک آدمی  
مطلوب بن وداع آئے اور عمر فاروقؑ کے سامنے کہنے لگے کہ امیر المؤمنین! ایک  
مرتبہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ پتھر ایسے ہی رکھا ہوا ہے، یہ کسی وجہ سے  
آگے پہنچے بھی ہو سکتا ہے تو اس کی جگہ کی نشاندہی کیسے ہوگی تو میں نے اس وقت  
باب کعبہ اور بیت اللہ کے اركان سے اس کی پیمائش کر کے رکھ لی تھی وہ پیمائش میرے  
پاس محفوظ ہے، چنانچہ عمرؑ نے ان کو بلا یا اور انہوں نے آ کر بتایا اور سب صحابہ نے

اُسکی تقدیق کی کہ واقعی یہی اُسکی اصل جگہ تھی،

اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن صحابہ نے پھر وہ کرنے کے ان کو بھی محفوظ رکھا انہوں نے اپنے محبوب کے اقوال اور اعمال کو کیسے محفوظ کیا ہو گا۔

## ایک واقعہ

ابھی قریب کے زمانے میں ۱۹۳۰ء اسکے قریب کاظمانہ میں بھی یہ پھر ایسے ہی رکھا ہوا ہوتا تھا بلکہ ہمارے حضرت<sup>ؐ</sup> کے زمانے میں جب وہ حج کے لئے تشریف لاتے تھے تو اس وقت بھی یہ پھر اسی طرح کھلا اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہوتا تھا اسکو فکر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ جمیلۃ الوداع کے موقع پر طواف زیارت کے لئے واپس تشریف لائے تو طواف کرنے کے بعد اللہ کے حبیب ﷺ نے زمزم کے کنوں سے پانی نکالا اور ڈول سے پانی نوش فرمایا اور پانی نوش فرمانے کے بعد ڈول میں جو پانی بچا اللہ کے محبوب ﷺ نے وہ بچا ہوا پانی اس کنوں میں واپس ڈال دیا اور واپس ڈالنے کا راز یہ تھا کہ میرے بعد میری امت کے جتنے لوگ اس زمزم کو پیش گے انہیں میرا بچا ہوا پانی پینے کی سعادت حاصل ہو جائے، اللہ اکبر بکیرا دیکھئے محبت کیا عجیب چیز ہوتی ہے چنانچہ ہمارے اکابرین آتے تھے اور ڈول نکال کر اس پانی کو پینتے تھے، تو ہمارے حضرت نے یہ بات بتائی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری<sup>ؒ</sup> بھی آئے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان پر محبت کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ گئے اور مقام ابراہیم سے یہ پھر انھا کر لائے اور ڈول سے زمزم نکالا اور زمزم کو ان پاؤں کے نشانوں پر ڈال کر وہاں سے نوش فرمایا جیسے پیالے سے پانی پینتے ہیں تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری<sup>ؒ</sup> نے محبت کی بنابری ڈول سے پانی ان پاؤں کے نشانات میں ڈالا اور پاؤں کے نشانات سے پھر ان پے لبوں سے نوش فرمایا، تاہم حکومت وقت نے جب دیکھا کہ یہ تو غیر محفوظ ہے تو انہوں نے اس کو ایک جگہ پر فکر کر دیا، آج ایک چھوٹا سا منارہ بنایا ہوا ہے شیشہ

کے اندر یہ پھر اس میں رکھا ہوا ہے تو یہ مقام ابراہیم اپنی جگہ کے اوپر محفوظ ہے، سیدنا عمر<sup>رض</sup> الہ رب العزت نے ایسی سمجھدی تھی جس پر انکو فاروق کا لقب ملا تھا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فرقان سے کہ ان کی بعض تجویز بالکل مشائے خداوندی کے مطابق تھیں

چنانچہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ان کی جو رائے تھی وہ مشائے خداوندی کے عین مطابق تھی، آئیت اتر آئیں، پردے کے بارے میں انکی جو رائے تھی مشائے خداوندی کے بالکل مطابق نکلی،

اللہ نے حجابت کی آیت اتار دی اور تیسری ایک بات یہ بھی تھی کہ نماز کہاں پڑھی جائے؟ تو عمر<sup>رض</sup> چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں کے نشانات ہیں ان کے قریب نماز پڑھی جائے چنانچہ الہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت اتار دی ﴿وَاتَّخُذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي﴾ کہ تم مقام ابراہیم کو اپنے لئے مصلی بنا لو اب یہاں مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ الہ رب العزت کی قدر دانی دیکھئے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے الہ رب العزت کا گھر تعمیر کیا اور اللہ نے اتنی عزت افزاںی فرمائی کہ ان کے قدموں کے نشانات کو آنے والے لوگوں کے لئے سجدہ گاہ بنادیا کہ جہاں میرے خلیل کے قدموں کے نشان ہیں اسکے قریب سجدے کرو، واہ میرے مولی! آپ کتنے قدر دان ہیں، چنانچہ یہ مقام ابراہیم قبولیت دعا کا مقام ہے امام اعظم ابوحنیفہ "شریف لائے اور کہتے ہیں کہ دو رکعت میں انہوں نے پورا قرآن مجید مکمل پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا (مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ) یہ کیوں کہا؟ نبی ﷺ کی سنت کی اتباع میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے مقام ابراہیم پر دور کعت نفل پڑھ کر یہی الفاظ کہے تھے [مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ] اے اللہ جیسا تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکتے تو ہم بھی اس

پُر عمل کر لیں موقع ملے تو مقام ابراہم پر دور کعت نفل پڑھ کر ہم بھی یہی کہیں کہ یا اللہ! (ما عَبْدُنَاكَ حَقِّ عِبَادِتِكَ) جیسی بھی ثوٹی پھولی عبادت ہے اے اللہ آپ اس کو قبول فرمائیجئے، تو آج ہم نے بیت اللہ کے غلاف کے بارے میں پھر حجر اسود کے بارے میں اور پھر مقام ابراہیم کے بارے میں کچھ بات کی۔

### آخری بات

ایک آخری بات جو بہت اہم ہیں کہ آپ اگر بیت اللہ کو دیکھیں تو اسکے اندر کچھ نہیں ہے، جی میں آتا ہے کہ اندر کوئی خزانہ چھپا ہوگا، کوئی انمول چیزیں رکھی ہوں گی، اندر کچھ بھی نہیں ہے بس ستون ہے اور ستون کے اوپر چھت ہے، ایک کونے میں چھت پر جانے کے لئے سیرھی ہے، اندر سے خالی ہے،

اب اس میں کیا راز ہے ذرا سوچیں امت کو یہاں ایک راز بتایا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ ہماری نظر نہ پہنچ لیکن اللہ والوں کی نظر پہنچتی ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس بیت اللہ کو سونے چاندی سے بھر دیتے اگر چاہتے تو ہیرے اور موتیوں سے بھر دادیتے کہ میرا گھر ہے موتیوں سے بھر دو، ہیروں سے بھر دو، قیمتی چیزوں سے بھر دو، کچھ بھی نہیں بالکل خالی ہے، اللہ آپ نے اپنے گھر کو خالی کیوں پسند کیا؟ اس لئے کہ ایک پیغام دینا تھا کہ میرے بندو! دیکھو اسکو میں بیتی کہ رہا ہوں، اپنا گھر کہہ رہا ہوں، اس لئے کہ اسکے اندر کچھ نہیں تو میری تخلیات اس گھر پر نازل ہوتی ہیں اگر تم چاہتے ہو وہ تمہارے دلوں پر نازل ہوں تو تم بھی اپنے دل کو غیر سے خالی کر لو!

بتوں کو توڑ تخلیل کے ہوں کہ پھر کے

سب بتوں کو توڑ دیجئے، اپنے دل کو مساوا اللہ سے خالی کر لیجئے جیسے اس خالی کعبہ کے اوپر اس عمارت کے اوپر اللہ کی براہ راست تخلی اترتی ہیں جو دل مساوا اللہ سے خالی ہو جاتا ہے اللہ کی براہ راست تخلیات اس دل پر اتر اکرتی ہیں اب ہم

اپنے دل کی طرف ذرا جھائک کر دیکھیں کہ کیا یہ خالی ہے؟ یا اس میں مورتیاں  
ہیں، شکلیں ہیں ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ إِلَّا تُنْتَمُ لَهَا عَاقِبَةٌ﴾ انسان کی  
تصویر پڑی ہوئی ہے یہ بت سب کے سب بت ہیں، جب تک یہ بت اندر ر  
ہیں گے وہ تجلیات نازل نہیں ہو سکتیں اسلئے آج اس مجلس میں ہم دلوں میں یہ  
عہد کریں کہ اے اللہ! ہم نے مخلوق کی نفسانی، شہوانی، شیطانی محبتوں کو ترک  
کر دیا اے اللہ! اپنے دل کو ہر غیر سے خالی کر لیا یہ دل فقط آپ کے لئے ہے، اب  
آپ ایک نظر رحمت کی اس پرڈال دیجئے جب ہم یہ نیت کر لیں گے تو پھر التدرب  
العزت کی خاص رحمت کی نظر اس پر پڑیں گی یہی کہنے کی بات ہے

ترکت اللات و العزی جمیعا

کذا لک یفعل الرجل البصیر

اللہ سب لات اور منات چھوڑ دئے اور بصیرت رکھنے والا شخص ایسا ہی کیا کرتا  
ہے، آج ہم بھی اس محفل میں سب لات اور منات کو توڑا لیں، ہمارے دلوں میں  
لات ہے منات ہے جمل ہے بہت سارے بت ہیں ان کو توڑیں ان کو چھوڑیں اور  
آج اپنے اللہ سے یہ عہد کریں کہ میرے مولیٰ بیت اللہ خالی ہے جیسے آپ کی تجلیات  
کے شرف نے اسکو لبریز کر دیا ہم اپنے دل کو غیر سے خالی کرتے ہیں ہمارے دلوں  
کو اپنی تجلیات سے لبریز فرمادیجئے۔ آمین،

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾

# عشاق کا عمرہ

از افادات

حضرت مولانا پیرزادہ الفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

# فہرست عنوانوں

صفحہ	عنوان	شمار
۱۲۲	بال کٹانا	۲۱
۱۲۳	ایک چونکا دینے والی بات	۲۲
۱۲۵	ایک مثال	۲۳
		۲۴
		۲۵
		۲۶
		۲۷
		۲۸
		۲۹
		۳۰
		۳۱
		۳۲
		۳۳
		۳۴
		۳۵
		۳۶
		۳۷
		۳۸
		۳۹

صفحہ	عنوان	شمار
۹۶	حج اور عمرہ کس کے لئے؟	۱
۹۷	کون کس نیت سے حج کرے گا؟	۲
۹۹	زبیدہ خاتون کا واقعہ	۳
۱۰۰	بتوں کی جمیعت قصص کے محل کے تحریکے	۴
۱۰۱	لبیس کیسے پڑھیں؟	۵
۱۰۲	ہر حال میں راضی رہیں	۶
۱۰۳	تمن کام ہرگز نہیں کرنے	۷
۱۰۴	عمرہ کس وقت بہتر ہوتا ہے؟	۸
۱۰۵	امام حسینؑ کی جاتی ہوئی دعا	۹
۱۰۸	رُل	۱۰
۱۰۸	طواف کے بارے میں ہدایات	۱۱
۱۱۱	ایک قرآنی دلیل	۱۲
۱۱۱	کیا ہائیس	۱۳
۱۱۲	ہربات سیکھ کر کریں	۱۴
۱۱۳	زمم پیتے وقت کیا ہائیس؟	۱۵
۱۱۶	سمی	۱۶
۱۱۸	سمی میں کیا ہائیس؟	۱۷
۱۱۹	حجاج بن یوسف	۱۸
۱۲۰	موقع کے مناسب دعائیں	۱۹

اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

## اقتباس

جس طرح واشگ مشین میں کپڑے  
ڈالتے ہیں اور چند چکر لگا کر کپڑے صاف کر کے باہر نکال  
دیتی ہے۔

اس عاجز کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کعبۃ الشادیک عالی big واشگ  
مشین ہے گھنگار بند سانتے ہیں اسکے گرد مطاف میں سات چکر لگاتے  
ہیں اللہ رب العزت اپنی ہمراں سے سب کو دھو کر باہر نکال دیتے ہیں۔

﴿از افادات﴾

حضرت مولانا ناصر  
حافظ ذوالفقار احمد صاحب  
نقشبندی مجددی زید مجدد

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیَ امَا بَعْدُ !  
أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ  
﴿وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾

سُبْخَنَ رَبِّکَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ  
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ

حج اور عمرہ کس کے لئے؟

﴿وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾ اور تم حج اور عمرہ کرو اللہ کے لئے، قران مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ کرنے کا حکم دیا تھا امر کا صیغہ ہے، حکم ہے مگر اس میں ایک خاص نکتہ کی نشاندہی کرو ولہ یہ عمل تم اللہ کے لئے کرو، اللہ کے لئے کرنے کا کیا مطلب؟ کہ یہ عمل تم اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر کرو،

انسان کئی کام کرتا ہے لیکن اس پر جو نیت غالب ہو جو رنگ غالب ہو وہ عمل اسی کے لئے کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے بچوں کے لئے کچھ لاتا ہے تو گوہہ سب مل کر کھاتے ہیں لیکن یہوی بھیتی ہے کہ یہ بچوں کے لئے آئی ہے، چنانچہ کئی مرتبہ اگر کسی بات پر تکرار ہو جائے تو کہہ بھی دیتی ہے تم جو کرتے ہو اپنے بچوں کے لئے کرتے ہو میرے لئے کیا کیا؟ اس لئے کہ میاں یہوی کے درمیان ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے اور محبت چاہتی ہے کہ رنگ غالب ہو، پتہ چلے کہ یہ میرے لئے عمل ہوا، بالکل اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ حج اور عمرے کا عمل جو بہت ساری عبادات پر مشتمل ہے اس راستے میں انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے

تلاوت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھ لیتا ہے، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی کرتا ہے، مگر ان تمام اعمال میں اللہ رب العزت کی محبت کا رینگ غالب ہو، اس لئے خاص طور پر اس کی نشاندہی کی، عمرہ، حج کرو تو تم میرے لئے کرو۔

## کون کس نیت سے حج کرے گا؟

حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بعض لوگ حج کریں گے سیر کی خاطر میری امت کے جو امیر لوگ ہوں گے وہ سیر اور سیاحت کے لئے حج کریں گے، اور جو میری امت کے علماء ہوں گے وہ تفاخر کے لئے حج کریں گے، ابکہ... دوسرے کے اوپر فخر ظاہر کرنے کے لئے، میں اتنے حج کر چکا میں اتنے عمرے کر چکا، اور میری امت کے غرباء سوال کرنے کے لئے بھیک مانگنے کے لئے حج کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے لئے حج کریں۔

پورے سفر کے ہر عمل سے ان کا مقصود میری محبت ہو، یہ جو للہ کا لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے، اسی لئے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ حج اور عمرے کا سفر عاشقانہ سفر ہے، مومن جب گھر سے نکلتا ہے تو ہیں سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو تمہارا اباں ہے یہ اوپنج پنج کافر قادھر ہی ختم کر دو، میرے دربار میں تم سب ایک جیسے بن کر آؤ

تیرے دربار میں ہیو پچ تو سبھی ایک ہوئے

فرمایا مرد، دو چادروں میں لپٹ جائیں، جو دیکھنے میں کفن کی مانند ہیں مگر اس کو حرام کہا جائے گا، بکھرے ہوئے بال ہوں گے، گرداؤ لوڈ چہرے ہوں گے، سفر کی تھکن ہوگی، ایسے جیسے دنیا کی زیب و زینت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، نہ تم خوشبو لگ سکتے ہو، نہ اپنے بال کاٹ سکتے ہو، نہ تم کوئی فخش بات اس حالت میں کر سکتے ہو، حتیٰ کہ میاں بیوی اگر چہ ایک دوسرے کے لئے حلال ہیں مگر حرام کی

حالت میں تم میاں بیوی بھی آپس میں کوئی محبت کی بات نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک آدمی حج کے سفر پر چلا جب اس نے احرام باندھا تو احرام باندھنے پر جینے اور بہت ساری چیزیں حرام ہو گئیں، بیوی کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ بھی حرام ہو گیا، اب آدمی نے وقوف عرفہ بھی کر لیا، مزدلفہ بھی کر لیا، منی میں آ کر شیطان کو کنکریاں بھی مار لیں، قربانی بھی کر لی، قربانی کے بعد حلق کروائے احرام اتار بھی لیا فرمایا تمہارے لئے سب چیزیں حلال ہو گئیں مگر بیوی ماں بھی حلال نہیں ہوئی، کیونکہ تم نے طوافِ زیارت نہیں کیا، وہ اصل مقصود تھا پہلے ہماری زیارت کرو، ہم سے ملاقات کرو اس ملاقات کے بعد بیوی کی محبت میں حاضری دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، کہ یہ سیر و سیاحت کا سفر نہیں یہ اللہ رب العزت کی محبت کا سفر ہے ﴿وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ حج اور عمرہ کرو اللہ کی خاطر، لہذا عمرہ کے ہر عمل میں اللہ کی محبت کا رنگ نظر آنا چاہئے، خاوند ہو یا بیوی، بہن ہو یا بھائی، باپ ہو یا اولاد، اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہر ایک کے ہر ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہئے ہیں کہ خاوند ہے تو میری محبت میں کتنا ترقیتا ہے اور بیوی ہے تو میری محبت میں کتنا ترقیتی ہے؟ میرے لئے کرو۔

### زبیدہ خاتون کا واقعہ

زبیدہ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نہر زبیدہ بنوائی لاکھوں انسانوں نے فائدہ اٹھایا جب اس کی وفات ہوئی تو خواب میں کسی کو نظر آئی، اس نے پوچھا زبیدہ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگیں کہ اللہ رب العزت کے حضور پیغمبیر ہوئی، اللہ رب العزت کے سامنے میرا نہر زبیدہ والاعمل پیش کیا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں تمہاری زبان سے لفظ نکلے، خزانے کا پیسہ لگا اور مزدوروں کا پسینہ بہا، تم یہ بتاؤ تم نے میری خاطر کیا مشقت اٹھائی؟ کہنے لگی کہ میں تو بہت ہی زیادہ ذر

گئی، خوفزدہ ہو گئی اس لئے کہ میں شہزادی تھی، اور میں تو تنکا توڑ کر دو ہر ابھی نہیں کرتی تھی، میں تو کوئی مشقت والا کام کرتی ہی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے میری خاطر کیا کیا؟ تو میں گھبرا گئی مگر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی فرمایا ہاں تمہارا ایک عمل ہے جو تم نے میری خاطر کیا، کونسا عمل؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھا رہی تھی تم نے لقمہ سالن میں ڈبوایا اور اپنے منہ کی طرف لے جانے لگیں تو عین اس وقت ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوئی اللہ تعالیٰ تم نے جیسے ہی اللہ کا لفظ سناتو تم نے (محوس) کیا کہ تمہارے سر پر دو پیشہ پورا نہیں تھا آدھا تھامن نے لقمہ کو رکھ دیا اور میرے نام کی عظمت کی خاطر تم نے پہلے سر کو ڈھانپا اور پھر لقمہ کھایا، یہ جو تم نے لقمہ کھانے میں تھوڑی دیری کی، یہ میری محبت کی وجہ سے کی، ہم نے اس عمل پر تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی۔

## بتوں کو چھوڑ تصور کے ہوں کہ پتھر کے

اللہ تعالیٰ فرماتے ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ حج اور عمرہ کرو اللہ کے لئے، تو یہ یاد رکھیں کہ جو سفر ہم نے کیا ہے یہ ایک مقصد کے لئے کیا ہے اور وہ مقصد ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا، وہ ہرگز راضی نہیں ہونگے جب تک ہم اس سفر میں اللہ تعالیٰ پر یہ ظاہرنہ کر دیں کہ اے اللہ! ہمیں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر عمل میں، ہر سانس میں اللہ کی محبت لپٹی ہوئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لئے تواحرام کی حالت میں تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا، لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں اے میرے اللہ! میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لکت لبیک حاضر ہوں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ان الحمد والنعمۃ لک والملک دیکھا سب تعریفیں، سب نعمتیں اور یہ ساری شاہی کس کے لئے اللہ کے، تو حاضر ہوں کا کیا مطلب ہے؟

اے پروردگار ع

### ترکٹُ الْأَثَ وَالْعَزْيِ جَمِيعًا

سب لات و منات میں نے چھوڑ دئے، ہر وہ چیز جو مجھے اللہ سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ میرے لئے لات اور منات کے مانند ہے،  
یہ لات اور منات پتھر کے نہیں ہوتے یہ بسا اوقات انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں، جب کسی کی محبت اللہ سے بڑھ جائے وہ تیرے لئے لات اور منات کے مانند ہے تو یوں سوچو کہ ترکٹُ الْأَثَ وَالْعَزْيِ جَمِيعًا  
میں نے لات اور عزی تماں کے تمام چھوڑ دیئے

**كَذَا إِلَكَ يَفْعُلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ**

ہر بصیرت رکھنے والے شخص کو ایسے ہی کرنا چاہئے

جب ہم اپنے گھر سے نکلے تو گویا سب نفسانی بتوں کو ہم نے توڑا اور اللہ کی طرف رُخ موڑا، اور اسی کی محبت میں ڈوب کر نکلیں، تو یہ تلبیہ اسی کا اقرار ہے۔

تلبیہ کیسے پڑھیں؟

صحابہؓ جب چلے نبی ﷺ کے ساتھ دس ہجری میں تو جب احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ریل علیہ السلام اترے اور نبی ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب ﷺ! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے یاروں سے کہو کہ تلبیہ کو اونچا پڑھیں، اس خاص پیغام کو دینے کے لئے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، پیغام پہنچانے والے کو، صحابہ کرامؓ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس پیغام پہنچ جانے کے بعد ہم اتنا تلبیہ پڑھتے تھے اتنا تلبیہ پڑھتے تھے کہ پڑھ پڑھ کر ہمارے حلق خشک ہو جاتے تھے اور آن آوازیں نہیں نکلتیں پینے کو پانی کی گلکہ جوں پیتے ہیں کھانے میں روٹی کے بجائے چکن پیس چاہیں مگر زبان اللہ کے ذکر سے اتنی عاجز بن گئی کہ تلبیہ اوپنچی آواز سے نہیں پڑھ پاتے گھنٹوں گذر جاتے

ہیں تلبیہ نہیں پڑھتے، اور حالتِ احرام میں ہوتے ہیں، یہ کیسا عمرہ ہوا بھائی؟ ہمیں تو تلبیہ اتنا پڑھنا چاہیے کہ یوں سمجھیں کہ کروٹ کروٹ اٹھتے بیٹھتے قدم قدم ہر وقت تلبیہ پڑھیں، اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر تلبیہ پڑھیں،

اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب انسان اونچائی پڑھتے تو چڑھنے سے پہلے تلبیہ پڑھے، جب نیچے اترے تو اترنے سے پہلے تلبیہ پڑھے، ہر تبدلیٰ حال پر تلبیہ پڑھے حتیٰ کہ اگر کوئی دوست ملنے کے لئے آیا تو پہلے تلبیہ پڑھے پھر دوست کو سلام کہہ کر ملے، ہر عمل میں اللہ کی محبت پہلے، یہ سفر ہمیں یہیں سکھاتا ہے۔

### ہر حال میں راضی رہیں

تو کیا فرمایا ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ حج اور عمرہ کرو اللہ کے لئے، ہم ایک مقصد لے کر نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اس لئے فرماتے ہیں ﴿فَوَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُجَّةٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآسِيرًا﴾ اور وہ مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہے علی حبہ اللہ کی محبت کی بنابر، یہ اصل مقصود ہے۔

ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم کہیں کہ اے اللہ عمرے کا سفر کیا تھا، اللہ فرمائیں تم نے میرے لئے کیا کیا تھا؟ بتاؤ تو سہی اس سفر میں تم نے میرے لئے کیا کیا؟ اسلئے مقصود کوسا منے رکھیں، اس لئے اس سفر میں جتنی مشقتیں آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔

### تین کام ہرگز نہیں کرنے

اس سفر میں تین کام نہیں کرنے۔

(۱) ..... بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا،

بے صبری کیا ہے؟ ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے الجھ پڑے، ذرا سی بات پر

سوئے ہرم کام نہیں کرنا۔

(۲) ..... دوسرا ناشکری کام مظاہر نہیں کرنا۔

ناشکری کیا ہے؟ کہ یہ اچھا نہیں ملا، وہ اچھا نہیں ملا، جہاز میں سیٹ اچھی نہیں ملی، ہوٹل کا کمرہ اچھا نہیں ملا، بس کی سیٹ اچھی نہیں ملی، اچھا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنی سہولتوں کا یہ سفر عطا کیا ہم اس قابل تھے؟ ہرگز نہیں، ایک پورٹ بھی ایک کنڈیشن، بسیں بھی ایک کنڈیشن، جہاز بھی ایک کنڈیشن، پھر بھی ہمارے شکوئے ختم نہیں ہوتے، فلاں جگہ بڑا نامم لگ گیا جی، بھائی یہ فقرے جو آپ بول رہے ہیں یہ ناشکری ظاہر کر رہے ہیں، تو بے صبری سے بچنا ہے اور دوسرا ناشکری سے بچنا ہے، کوئی لفظ ایسا نہ کہیں کہ جس سے ناشکری ہو۔

(۳) ..... اور تیسرا کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا کہ جو شریعت کے حکم میں گناہ کہلاتا ہے، اسلئے کہ گناہ تو ہر حال میں بُرا ہے، لیکن کسی کے گھر میں آ کر اسی کی نافرمانی یہ اور زیادہ بُری ہو جاتی ہے، اپنے گھر میں تو جو چاہے کرتے تھے یہاں تو خدا کے گھر میں آئے ہیں تو کیا خدا کے گھر میں آ کر پھر خدا کے حکموں کی نافرمانی کریں گے؟ اسلئے کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکلے، آنکھ سے اوہرا دھر غلط نظر نہ اٹھائیں، کان سے غلط نہ سین، ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کوئی بھی کام جس کو شریعت نے گناہ کہا ہم اس کے مرتكب نہ ہوں، یہ تین کام ہم نے ہرگز نہیں کرنے۔

### عمرہ کس وقت بہتر ہوتا ہے؟

اب ہم اس وقت احرام کی حالت میں ہیں اور عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، ہم رات کو پہنچے تھے تورات میں بھی یہ عمل کر سکتے تھے، مگر عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے ہم جیسے بوڑھے بھی تھے، تو اگر ہم رات ہی کو عمل کرتے تو یہ سر سے بوجھا تارنے والی بات ہوتی، ہر بندہ سوچ رہا ہوتا کہ جلدی کرو جی، جلدی کرو جی، نیند ستارہ ہی ہے، تو کیا ہم اتنا سفر کر کے اسی لئے آئے تھے کہ دو گھنٹے کے بجائے پانے دو گھنٹے میں

عمرہ ہو جائے؟ نہیں، ہم تو مستقل ایک عبادت کرنے کے لئے آئے ہیں، اس لئے ہم نے وقفہ ڈالا، یہار لوگ دوائی لے لیں صحت مند ہو جائیں، تنھے ہوئے لوگوں کو آرام مل جائے، اور عشاء کے بعد انہائی فریش (پخت) حالت میں ہم اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں، جب دعا میں مانگنے کو دل پھل رہا ہو، جب محبت سے دل لبریز ہو، جب جی چاہے کہ بس اللہ کے نام پر ہم مٹ جائیں، ہم ایسی کیفیت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہتے ہیں، اسی لئے جو وقفہ درمیان میں ڈال دیا وہ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لئے ہے، اب ان شاء اللہ عشاء کی نماز کے بعد انہزار دس بجے، اس لئے کہ عشاء کے متصل بھی رش زیادہ ہو جاتا ہے، دس بجے سے لے کر رات ایک بجے تک یہ تین گھنٹے ایسے ہیں کہ ہمارا اور دوستوں کا بہت عرصے کا تجربہ ہے کہ اس وقت میں عام طور پر رش کم ہوتا ہے، تو بہر حال عشاء کے بعد ان شاء اللہ ہم حرم میں جائیں گے۔

### حرم کے پانچ کام

حرم میں جا کر نہیں پانچ کام کرنے ہیں،

(۱) ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم جیسے ہی مسجد حرام میں جائیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے،

تلبیہ کا مسئلہ سمجھ لیں، کہ احرام باندھتے وقت تلبیہ سے احرام شروع ہوتا ہے اور حجر اسود کے سامنے پہنچ کر جب استلام کرتے ہیں تو اس سے پہلے تلبیہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ نظرہ تو اس وقت تھا جب آر ہے تھے ملنے کے لئے، تو دیوانہ وار لبیک لیک کہہ رہے تھے، جن لوگوں کو نہیں پڑتا ہوتا وہ بیچارے طواف میں بھی تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسئلہ کا پتہ نہیں ہوتا، عورتیں ہمیشہ آہستہ پڑھیں اور مرد ہمیشہ اوپھی آواز سے پڑھیں، اوپھی آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرے مارتے پھریں، بلکہ اوپھی آواز سے مراد یہ ہے کہ بس ذرا جہر ہو، مگر

محبت سے جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے، دل سے یہ بات نکل رہی ہوتی ہے، تو جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھیں گے، دیکھیں ایک آدمی کسی وزیر کے دفتر میں داخل ہوتا ہے تو دل کی کیفیت بدی ہوئی ہوتی ہے، طبیعت ذرا احتاط ہوتی ہے، اور کسی وزیر اعلیٰ کے دفتر میں جائے تو اور ذرا زیادہ زیادہ ہیبت ہوتی ہے، اور کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں چلا جائے تو اور ذرا زیادہ محتاط ہوتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ﴿أَوْلَىٰكُمْ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ ان لوگوں کو چاہئے تھا کہ یہ مسجد حرام میں داخل نہ ہوتے مگر اس کیفیت کے ساتھ کہ ان کے دل اللہ کی عظمت سے ہیبت زدہ ہوں، تو اس لئے داخل ہوتے ہوئے یہ کیفیت سامنے رہے۔

(۲) جب اللہ کے گھر میں قدم رکھ لیا تو پھر ہمیں اعتکاف کی نیت کر لینی ہے، عربی کی نیت نہ آتی ہو تو اپنے دل میں نیت کر لیں، نیت تو دل کا عمل ہوتا ہے کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ نفاذی اعتکاف ہوگا، یہ مرد بھی کر سکتا ہے، یہ عورتیں بھی کر سکتی ہے۔

ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مہمان نے جو بات کبی پوری کر دیں، کہتے ہیں جی وہ گھر آیا تھا کہنے کیلئے تو میں نے بات مان لی، اللہ رب العزت بھی مہمان نوازی فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب تم مکہ آؤ اور میرے گھر پر تمہاری پہلی نظر پڑے، تو پہلی نظر پر تم جود عالم انگوگے ہم تمہاری اس دعا کو قبول کر لیں گے، سبحان اللہ،

اب اس کی تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ پہلی نظر سے کیا مراد ہے؟ تو مومن کو چاہئے کہ جب عمرہ کے لئے جائے یا حج کے لئے بیت اللہ شریف کی طرف جائے تو نظر کو جھکائے رکھیں اس لئے کہ چلتے چلتے اچانک نظر اٹھ گئی، دیکھ بھی لیا نظر ہٹ بھی گئی تو پہلی نظر تو پڑ گئی تو ہم کیوں بے دھیانی میں ایسا معاملہ کریں، تو نگاہیں پنجی

رہیں ادب سے چلتے جائیں، چلتے چلتے جب آپ مطاف (جہاں طواف کرتے ہیں) میں پہنچیں تو وہاں باہر کا لیول (Level) اونچا ہے اور بیت اللہ شریف نشیبی جگہ پر، تو آپ کوئی سیرھیاں نیچے اترنا پڑے گا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہم چلیں گے تو نگاہیں تیکی ہوں گی اور چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے جہاں جا کر ہم رکیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اب یہاں پر ہم بیت اللہ کے سامنے ہیں تو آپ پیش کچند سینڈ اپنے آپ کو وہاں تھوڑا سنپھال لیں اور جب آپ سمجھیں کہ اب میں حاضر ہوں، دل حاضر ہے اب آرام سے نظر اٹھائیں اور نظر جھکنے سے پہلے جو بھی خاص دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاص دعا مانگیں؟

### امام اعظمؐ کی بتائی ہوئی دعا

کسی نے امام اعظم ابوحنیفہ سے پوچھا کہ حضرت دعا میں بہت ہیں اور نظر ایک ہے اب پلک جھپک جاتی ہے تو کیا مانگیں؟ تو فقہاء کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں، امام اعظمؐ نے فرمایا کہ تم پہلی نظر میں یہ دعا مانگنا اے اللہ! مجھے مستجاب الدعوات بنادے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ! آج کے بعد جتنی بھی زندگی میں دعا مانگوں گا اب میری تمام دعاؤں کو قبول کر لینا، ماشاء اللہ دیکھا نکتہ کی بات سمجھادی، بس اصولی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنادیجئے، پھر تفصیل سے بعد میں مانگتے رہیں گے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اب پلک جھپک گئی تو دعا کا وقت ختم نہیں ہو گیا، ہاں وہ جو قبولیت کی بات تھی کہ پہلی نظر میں دعا کی قبول ہوتی ہے تو وہ وقفہ ختم ہو گیا، مگر ایک اور بات عرض کر دیں کہ دعا پھر بھی مانگتے رہیں، اس لئے کہ ایک ہی مجلس میں اگرچہ ہم بعد میں بھی دعا مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ اس مجلس کی مانگی ہوئی کچھ دعاؤں کو قبول کرے اور بقیہ کو رد (Reject) کر دے، لہذا اس مجلس میں ہم بعد میں

بھی مانگیں گے، تو کچھ دیر دعاء مانگیں تسلی سے یہ ایک عمل ہو گیا، تو گویا ایک عمل ہمارا بنا خوفزدہ کیفیت میں، ہمیت زدہ کیفیت میں، اللہ کے گھر میں داخل ہونا اور یہ صرف احرام کی حالت میں نہیں ہے جب بھی حرم شریف میں داخل ہوں اسی کیفیت کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کریں، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ پہلی نظر میں دعاء مانگیں،

(۳) تیرا عمل مردوں کے لئے ہے جو احرام کی چادر ہم نے لپیٹی ہوئی ہے اس احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے با میں کندھے کے اوپر لے آتا، اسکو اخطباع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اخطباع کہتے ہیں، تو ہر وقت اخطباع نہیں کرنا ہوتا، ہر وقت تو چادر پیشی ہوتی ہے، تو اب تیرا عمل اخطباع کرنا ہے۔ اعتکاف کی نیت بھی کر لی، دعاء بھی مانگ لی اور اخطباع بھی کر لیا، تو اب اگلا پوئٹ (Point) ہے استقبال کعبہ، مجر اسود کے سامنے جانا اور مجر اسود کے سامنے آتا، یہ دو لفظ ہیں ذرا توجہ فرمائیں

(۴) ایک ہے استقبال یا الگ سنت ہے

(۵) اور ایک ہے استلام یا الگ سنت ہے یہ دو الگ الگ عمل ہیں ایک

عمل نہیں ہے

اب ہم مجر اسود کی طرف جائیں گے اور مجر اسود کے سامنے قبلہ کی طرف رخ کر کے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ مجر اسود ہمارے دائیں کندھے کی طرف ہو گا یعنی ہم مجر اسود سے تھوڑا پہلے ہوں گے، اسکے سامنے آ کر جب ہم کھڑے ہو گئے تو دل میں نیت کر لیں کہ نَوَيْثُ الْقُمَرَةِ لِلَّهِ تَعَالَى میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کیلئے یا نوبت ان اطوف میں طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اس وقت ہم طواف کی نیت کر لیں گے سامنے آ کر، پھر تحریمہ جیسے باندھتے ہیں یعنی نماز میں جیسے کانوں کی لوٹک ہاتھ اٹھا کر اللہ پڑھتے ہیں اسی طرح ہمیں کانوں کی لو

تک ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے [بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ] یہ تین چیزیں ہیں بسم الله ، الله اکبر، ولله الحمد ، یہ ہمارا استقبال مکمل ہو گیا ، جب استقبال مکمل ہو گیا۔

اب ہم ایک قدم اٹھا کر جمrasو کے سامنے آ جائیں گے، دائیں طرف قدم اٹھائیں گے تو ہم جمrasو کے سامنے آ جائیں گے، جوں ہی سامنے آئیں گے تو ہمیں جمrasو کا استلام کرتا ہے، اگر جمraso قریب ہو تو پھر ہمیں دونوں ہاتھ جمraso کی سائیڈوں پر رکھ کر اس کو بوسہ دینا ہے لیکن اگر رش ہو جیسے کہ ہوتا ہے تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کریں، جیسے چھوٹے بچے کو دور سے فلاںگ کیس (Flying Kiss) دی جاتی ہے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو چوم لیتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھ جمraso کی طرف اٹھا کر انکو بوسہ دیدیں، استلام کا انگریزی میں ترجمہ فلاںگ کیس Flying Kiss کر سکتے ہیں، تو بس ہم دور سے یوں سمجھیں کہ ہم جمraso کو فلاںگ کیس (Flying Kiss) دے رہیں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمraso دنیا میں اللہ رب العزت کا داہنا ہاتھ ہے، یعنی اللہ فی الارض دنیا میں اللہ کا داہنا ہاتھ، تو جیسے آپ اپنے والد کو ملتے ہیں، بڑے کو ملتے ہیں تو ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح جب ہم استیلام کرتے ہیں تو گویا ہم پور و گار کے اس داہنا ہاتھ کے اوپر اپنے خیال میں بوسہ دے رہے ہیں، اب کس محبت سے بوسہ لینا چاہئے، یہ آپ اندازہ لگا لجئنے، اس کو استلام کہتے ہیں، تو یہ دوالگ الگ عمل ہوئے، استقبال الگ عمل ہوا، استلام الگ عمل ہوا، اعتکاف کی نیت بھی کر لی، دعا بھی مانگ لی، اضطباب بھی کر لیا، استقبال بھی کر لیا اور استلام بھی کر لیا، یہ استقبال اور استلام عورتوں نے بھی کرتا ہے، لیکن اضطباب مردوں کے لئے ہے، عورتوں کے لئے نہیں ہے، تو یہ پانچ چیزیں مکمل ہو گئیں،

اب ہمارا طواف شروع ہو گیا، تو ہم پھر دائیں جانب مڑیں گے چونکہ اب تک

رخ جھرا سود کی طرف تھا اس لئے اب ہم دائیں طرف مژیں گے طواف کے سات چکر ہوتے ہیں مگر مردوں کے لئے پہلے کے جو تین چکر ہیں ان میں رمل بھی کرتا ہے،

## رمل

رمل کہتے ہیں کہ پہلوانوں کی طرح ذرا ہمت سے چلنا، اس کا ترجمہ ڈورنا نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بھیڑ کے باوجود دوڑتے ہیں ادھر کہنی لگی ادھر کہنی لگی، ہمیں ڈورنا نہیں ہے، بلکہ ہمت کے ساتھ جیسے پہلوان ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ذرا اپنی ہمت دکھاتے ہوئے اکڑتے ہوئے یہ رمل ہم نے کرتا ہے، جوانوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، عورتوں کو رمل نہیں کرنا، صحابہ کرام ٹسفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے تو نبی ﷺ نے سوچا کہ کفار کے سامنے کہیں مسلمانوں کا ضعف، کمزوری ظاہرنہ ہو تو آپ ﷺ نے ذرا ہمت کے ساتھ اس طرح سے یہ تین چکر لگائے، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادا پسند آگئی ہمیشہ کے لئے اسکو ایسے طواف کا حصہ بنادیا جس طواف کے بعد سعی کرنی ہے، اب جب رمل بھی تین چکر میں کر لیا تو چار چکر اور لگانے ہیں، یہ جو ایک چکر ہے اس کو عربی میں شوط کہتے ہیں، سات شوط کا ایک طواف بتتا ہے، اور ہر چکر جب پورا ہو گا تو جھرا سود کے سامنے آ کر پھر استلام کرنا ہے، سات چکر مکمل کر کے جب ہم نے استلام کر لیا تو طواف مکمل ہو گیا۔

## طواف کے بارے میں ہدایات

اب طواف کے بارے میں چند باتیں ذہن میں رکھ لیجئے،

..... طواف ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، نماز میں انسان اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہیں پھرا سکتا کہ کھڑے ہیں نماز میں دائیں بھی دیکھ رہے ہیں ہیں باسیں بھی دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں، اسی طرح طواف کے دوران بھی نگاہیں پچی

رہیں، بیت اللہ شریف کی طرف نہیں دیکھنا، طواف میں نہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ ہونا چاہئے نہ طواف میں بیت اللہ شریف کی طرف پشت ہونی چاہئے، بلکہ اگر آپ چل رہے ہیں اور پیچھے سے لوگوں کا ریلہ آیا اور آپ نے دو تین قدم اس طرح چل لیے جس میں آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف تھا تو وہ تین قدم طواف میں شانہیں کیے جائیں گے، اب اس کا ایک حل ہے یا تو پیچھے لوٹیں تین چار قدم اور وہاں سے پھر صحیح رخ سے چلیں تو یہ بیچ لگ جائیگا، جوڑ لگ جائیگا اور اگر ایسا نہیں کر سکتے اور آگے جارہے ہیں تو پھر آپ اس شوط کو نہیں ایک کام یاد رکھ لیں، پھر جا کر چکر مکمل ہو گئے، ہاں اگر کوئی طواف میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور کھڑی حالت میں اگر فرض کرو سینہ بھی ہو گیا پھر اس کا رخ بدل گیا تو طواف خراب نہیں ہو گا، چلنے کی حالت میں ایسا نہ ہو، اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جب ہم اسلام کریں گے تو اس وقت سینہ بیت اللہ کی طرف تو ہو جاتا ہے لیکن اس وقت ہم چل تو نہیں رہے ہوتے اس لئے اگر اسلام کر کے پھر رخ موز کر پھر چل لیا تو ہمارے طواف میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو چونکہ مسئلے کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، کئی لوگوں کو دیکھا میاں یہوی طواف کر رہے ہیں تو یہوی نے خاوند کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یا خاوند نے یہوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، طواف عبادت ہے، جیسے نماز میں میاں یہوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پڑھنہیں سکتے نماز نہیں ہو گی اسی طرح طواف کے دوران ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا، جسم کو ہاتھ لگانا چاہے کپڑا ہی کیوں نہ ہو اس سے بچنا چاہئے، ہاں یہوی کو چانہ ہئے کہ اگر شوہر کے ساتھ پیچھے پیچھے چلانا ہے تو شور ہاتھ میں رومال رکھ لے اور رومال کو یہوی پکڑ لے، اور اسی طرح خاوند یہوی کے جسم کو س کرنے کے بجائے اس کے برقدع کو پکڑ لے یا کوئی کپڑا پکڑ لے، یہ سمجھ لیں کہ مقصود عبادت ہے اور عبادت میں کامل

نور اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تو بات بنے گی، اور آجکل کے نوجوان نوائیے ہیں طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سیل فون پر اپنے پیاروں سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بتارہے ہوتے ہیں کہ اچھا باب میں حجر اسود تک ہوئے خیج گیا ہوں میرا پانچواں چکر ہے، ہم نے ایسے ایک نوجوان کو دیکھا وہ طواف بھی کر رہا ہے اور کنسٹری بھی سنارہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایسے طواف کی ضرورت نہیں، تو طواف میں اپنے فون بند کر لیں اور کہیں پیارے اللہ: میں نے سب سے تعلقات کو اس حالت میں کاٹ لیا اور آپ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ طواف میں دعا مانگنا افضل ہے، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کلمے کا ورد کر رہے ہوتے ہیں اور کئی تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی قرآن مجید کی تلاوت بھی بڑی اعلیٰ عبادت ہے، کلم افضل الذکر ہے، مگر جو مانگنے کا وقت ہو تو اس وقت مانگنا زیادہ اہم ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت سے دل سے دعا میں مانگیں، عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے، اپنی اپنی زبان میں مانگیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دعا میں مانگیں، تو ایک اصول یاد رکھیں کہ موقع کے مطابق اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ سونے کی ڈلی کے مانند ہوتی ہے، اور کئی دفعہ موقع کے مناسب کوئی بات کر دی جائے تو دوسرا بندہ اس کو جلدی مان لیتا ہے، اسی طرح دفتر میں جو کلرک حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے افرزوں کے موڈ کو دیکھتے ہیں اور جب ذرا اچھا موڈ ہوتا ہے تو فائل لا کر پیش کر دیتے ہیں، کہ اب ان پر سائی ہو جائیں گے، اور گھروں میں بیویاں اپنے خاوندوں کے موڈ دیکھتی رہتی ہیں جب ذرا دیکھتی ہیں کہ خوش گوار موڈ ہے اب وہ اپنے ذہن میں رکھی ہوئی بات پیش کر دیتی ہیں، تو بر موقع کہی ہوئی بات جس طرح بندے مان لیتے ہیں اسی طرح بر موقع بات اللہ کے سامنے پیش کی جائے تو اللہ بھی قبول فرمائیتے ہیں۔

## ایک قرآنی دلیل

اب اس کی دلیل قرآن مجید میں سے سنئے بی بی مریم علیہا السلام بے موسم کے پھل کھاری ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام سالوں دعا میں مانگتے رہے اللہ اولاد دے، بیٹا دے، مگر قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے، مریم علیہا السلام کو بے موسم کے پھل کھاتے دیکھا تو پوچھا ہے یعنی میریم اتنی لکھا ہے یہ بے موسم کے پھل کہاں سے ملے مریم نے جواب دیا ہے قال اللہ ہو مَنْ عِنْدَ اللَّهِ يَرَى

اللہ کی طرف سے، جب اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس موقع پر یہ فرمایا ہے ڈعا زکریا رَبَّهُ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے ربِ لَنِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِئَةً طَيِّبَةً اے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم کا پھل عطا کر سکتے ہیں میں بھی بوڑھا ہوں مجھے بھی اس بوڑھا پے میں اولاد جیسی نعمت، بے موسم کا پھل عطا کر دے، انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فَنَادَهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يَسْرِكَ بِيَحِينِی یہ فوراً دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ موقع کی بات اللہ کے یہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے، اسی لئے یہ مسنون دعا میں ہیں جو نبی ﷺ نے مانگی ہیں ان کا حسن یہی ہے ان کی خوبصورتی یہی ہے اللہ کے محبوب ﷺ نے موقع کی مناسبت سے دعا مانگی مثلاً شکل دیکھی تو دعا مانگی اے اللہ جیسے تو نے میری شکل کو اچھا بنا�ا اے اللہ تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، تو موقع کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس لئے مسنون دعاء کی بہت پابندی کرنی چاہئے۔

کیا مانگیں

سب سے پہلے تو ہم اپنے لئے ہدایت مانگیں، اپنے لئے، والدین کے لئے، اولاد کے لئے، عزیز واقارب کے لئے پوری امت کے لئے، اے اللہ میرے

رزق میں، عمر میں، مال میں، اللہ میری صحت میں، میرے فیصلوں میں، ہر چیز میں برکت عطا کر دیجئے، اولاد میں برکت، دین میں برکت عطا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں نفس کی خبائشوں سے امن دیدیجئے، شیطان کے ہلاکت خیز حملوں سے امن دیدیجئے، حاسدوں کے حسد سے امن دیدیجئے، دشمنوں کی دشمنی سے امن دیدیجئے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی امن دیدیجئے، اور اے اللہ دنیا کے ہر خوف سے امن دیدیجئے، میرے مولیٰ ہمیں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی امن دیدیجئے، اے اللہ ہم آئے تو آپ ہی کے خاطر اس عمل کے کرنے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو معاف کر کے اس عمرے کو فقط اپنی محبت کے لئے اپنے لئے بنایجئے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ آنا سفر بیکار نہ ہو جائے، اے مولیٰ! بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں، مولیٰ آپ کو منانے کے لئے، آپ کو پانے کے لئے آیا ہوں، اپنے عمرے کی قبولیت کی اللہ سے دعا مانگیں، آپ اس طوف کے اندر جتنا بھی مانگیں گے، یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہو گی، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حرم بندے کو چاہئے کہ جب تک احرام اترنہ جائے اس وقت تک بیت اللہ شریف کے ساتھ نہ لپٹے، احرام والے بندے کو وہاں نہیں جانا چاہئے، لوگ بھی خوبصورگ کر کھڑے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کی دیوار پر بھی خوبصورگ الی ہوتی ہوتی ہے، اس لئے حالت احرام میں کوئی چلا گیا اور اگر خوبصورگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، جب احرام نکل آئے، اب ماشاء اللہ جتنا موقع ملے۔

### ہربات سیکھ سیکھ کر کریں

ہمارے بڑے بڑھوں کو گھر یوں کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے، لیکن قبولیت و دعا کے مقامات کا پتہ نہیں ہوتا، اتنی لا علمیت اور جہالت کا وقت آگیا، ایک بڑے میاں سے پوچھا کہ آپ نے عمرہ کر لیا، کہنے لگے ہاں میں نے کوئی کے سات چکر

لگائے ہیں، کوئی نے سے مراد بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کے سات چکر لگا کروہ سمجھا میر اعمرا مکمل ہو گیا، نہ سعی کی، نہ کچھ اور کیا، بال بھی کٹوا لئے، کپڑے بھی پہن لئے تو اتنی لاعلمی کا وقت ہے، اس لئے یہ سفر کرنے سے پہلے خود بھی علماء سے سیکھنا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے کہ سفر کے دوران بھی ایسے لوگوں کا ساتھ ہو کہ جو وقت پڑنے پر انسان کو مسئلہ بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، دیکھیں کام تو تم نے کیا اور مکمل نہ کیا تو پھر ہمارا اتنا مال، پیسہ، وقت قربان کرنے کا فائدہ کیا؟ تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، مسائل کو سامنے رکھیں خود بھی پڑھیں اور علماء سے پوچھتے بھی رہیں، اچھا یہ تو ہو گیا طواف۔

اب عمرے میں کیا کرتا ہوتا ہے دور کعت نفل پڑھ لئے، مقام ابراہیم پر دعا کر لی، مقام ابراہیم سے مراد یہ نہیں کہ جہاں وہ پڑھ رہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی، بالکل اس کے ساتھ نفل پڑھنا یہ نہیں ہے، جیسے بعض لوگ ساتھ نفل پڑھنے کے شوق میں طواف والوں کیلئے مصیبت کر دیتے ہیں، راستہ روک لیتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس کی سیدھی میں پیچھے چلے جائیں اور پرسکون ہو کر دور کعت نفل پڑھیں، اس کے بعد پھر زمزم پینا ہوتا ہے، پہلے زمزم ایک کوئی کی شکل میں تھا اور شروع میں تو اس میں سے خود ڈول بھر کر نکالتے تھے اور پیتے تھے، حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ جب آئے تو یہ مقام ابراہیم اس وقت ایک جگہ پر متعین (Fix) نہیں تھا، یوں تھا کہ پھر کبھی ادھر کبھی ادھر کھدیتے تھے درمیان میں جب بارش کا طوفان آیا تو بارش کا طوفان اتنا تھا کہ سیلا ب کی شکل اختیار کر گیا، تو یہ پھر اس کے ساتھ لڑھلتا لڑھلتا اجیاد محلہ میں پہنچ گیا، پھر وہاں سے اس کو اٹھا کر لائے تو اس کے بعد سے پھر اس کو ایک جگہ پر فکس کر دیا گیا، پھر ان لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، چونکہ اشراف

کے ساتھ اشرار بھی آ جاتے ہیں عقیدہ کے مخالف اس لئے اس کے اوپر انہوں نے شیشہ کی ایک جالی بنالی، تاکہ دور سے دیکھنے والے دیکھ سکیں اور اس کو ہاتھ نہ لگا سکیں، مگر پہلے یہ کھلا تھا، تو مولانا احمد علی لاہوریؒ ایک مرتبہ تشریف لائے تو انہوں نے زمزم پینا تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ پھر انہا کر لے گئے زمزم کے پاس اور پانی کا ڈول نکال کر انہوں نے پاؤں کے نشان میں ڈالا اور اس پاؤں کے نشان سے وہ پانی پینے لگے، یہ بڑوں کی باتیں ہیں۔

### زمزم پیتے وقت کیا مانگتیں؟

زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کسی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، اسی طرح زمزم کو دیکھنا بھی عبادت، یعنی کنویں کے اندر نظر ڈالنا، اب آج کوئی آدمی وہاں جائی نہیں سکتا، اس لئے کہ اس کا احاطہ کر لیا گیا ہے، تو نیت کر لینے سے ثواب ملے گا کہ اگر ہمیں قدرت ہوتی تو ہم زمزم کو ضرور دیکھتے، تو جہاں بھی اس وقت زمزم کا انتظام ہے آپ وہاں قبلہ رخ ہو کر اس کو پی لیں اور وہیں کھڑے ہو کر اگر آپ دعا مانگ لیں گے ان شاء اللہ جو قولیت دھما والی برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمادیں گے، نبی ﷺ نے فرمایا کہ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے یہ اسی نیت کے مطابق بندے کو بدله دیتا ہے، مثلاً بھوکا بندہ بھی اس کو پی لے تو بھوک دور ہو جاتی ہے، پیاسا لی لے تو پیاس دور ہو جاتی ہے، تاہم زمزم پیتے وقت جو دعائیں جائے وہ قبول ہوتی ہے، اب اس پر علماء نے بہت لکھا کہ کیا دعائیں؟ تو بعض نے کہا کہ چونکہ یہ پینے کی چیز ہے تو انسان اپنی موت کے وقت کی پیاس کو یاد کرے، اور یہ دعا... لاء اللہ اب میں جو زمزم پی رہا ہوں اس کے بد لے میری موت کے وقت کی پیاس کو بجہاد بیجھے، بعض نے قیامت کے دن کی بختی کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے دعائیں کہ یا اللہ اس

وقت کی پیاس کو بچھاد دینا، جو عقل معاذر کھنے والے تھے انہوں نے نکتہ نکالا، انہوں نے فرمایا دیکھو یہ پینے کی چیز ہے اور علم کے گھونٹ بھی بندہ بھرتا ہے تو پیتے ہوئے دعا مانگے کہ اے اللہ! مجھے بھی علم کے دریا، علم کے سمندر عطا فرماد تھے، گھونٹ بھر رہا ہوں ہر ہر گھونٹ کے بد لے میرے سینہ میں علم کا دریا بھاوا تھے، ہر قطرے کے بد لے میرے اوپر علم کا ایک باب کھول دیجئے، اپنی معرفت عطا فرماد تھے، تو یہ بہر حال چاہئے والوں نے کہا کہ بھائی ہے تو پینا ہی، زمزم پی رہے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کے سرخ رنگ کا پانی پی لیتے ہے ان کو دنیا کا نشہ چڑھ جاتا ہے، تو ہم یہ پانی پینے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم یہ زمزم پی رہے ہیں ہمیں ہر ہر قطرے کے بد لے اپنی محبت کی شربت کا گھونٹ پلا دیجئے، اس کے بد لے میں شراب الفت پلا دیجئے، تو زمزم پینے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مشروب ضرور مانگا کریں۔

نبی ﷺ اس کو پینے بھی تھے جو نجی جاتا اس کو اپنے سر پر ڈالتے حصول برکت کے لئے، چہرے پر ڈالتے حصول برکت کے لئے، بسا اوقات سینے پر ڈالتے تھے حصول برکت کے لئے، تو یہ واقعی اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، چنانچہ زمزم کو پینا چاہئے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ، زمزم کے بارے میں یہ باتیں اپنی جگہ، ایک بات نبی ﷺ نے فرمائی کہ مومن زمزم کو سیر ہو کر پیتا ہے اور منافق زمزم کو تھوڑا پیتا ہے، خوب پینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پانچ گلاس پی سکتے ہیں تو دو گلاس پی کے آئیں اور پھر راستے میں ہی آپ کو گنگنا نے والی جگہ پر جانا پڑ جائے، یا اگر پہنچنے کے بعد پیٹ خراب ہو جائے، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جتنی آپ کی طلب ہے عادت ہے اگر آپ دو گلاس پینے ہیں تو دو گلاس پیئیں، تین پینے ہیں تو تین پیئیں، جب آپ کی طبیعت سیر ہو جائے تو اس آپ سمجھ لیں کہ کافی زمزم پی لیا، مگر کوشش کریں کہ اپنے کروں میں بھی بجائے دوسرے مشروب پینے کے زمزم کے کیمین نیچے سے خرید

کرفرتیج میں رکھ لیں اور کھانے کے دوران اور آگے بیچھے زمزم ہی پیا کریں، یہ وہ نعمت ہے جو یہاں پر وافر مقدار میں ملتی ہے، اپنے گھروں میں تو لیمیٹڈ ہوتی ہے، لہذا اس قیام کے دوران زمزم کو نہایت محبت کے ساتھ پی کریے ثابت کر دیں کہ ہمارا شمار ایمان والوں میں ہے منافقین میں نہیں۔

## سمی

اب جب زمزم پی لیا اور دعا بھی مانگ لی، تو اس کے بعد اگلا کام ہے سمی کا، سمی کرنے سے پہلے نواں استلام کرنا ضروری ہے، یعنی آٹھ استلام تو ہو چکے تھے طواف کے دوران، سات چکر اور آٹھ استلام جب آپ زمزم پی لیں تو دوبارہ بزر روشنی جہاں ہے وہاں لائے (Green Signel) لگی ہوئی ہے اس طرف کو آئیں اور مجرم اسود کے سیدھے میں کھڑے ہو کر آپ نواں استلام کریں یہ بھی مستحب ہے، یہ استلام کرنے کے بعد پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف جائیں، جہاں سے سمی شروع ہوتی ہے، سمی شروع ہوتی ہے صفا سے، اور ختم ہوتی ہے مرودہ پر، یہاں یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر چکر سمجھا جاتا ہے صفا سے جا کر مرودہ سے واپس آئیں تو ایک چکر، مگر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے امت کے لئے آسانی رکھی ہے، صفا سے مرودہ ایک چکر، اور واپس مرودہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح جب صفا سے شروع کریں گے تو مرودہ پر ختم ہو گا، تو گویا سات چکر صفا اور مرودہ کے تقسیم کرنے پڑتے ہیں، یہ پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر پتہ نہ ہو تو پھر کتنی مرتبہ انسان چودہ چکر لگا کر سمجھتا ہے کہ جی اب میرے سات چکر پورے ہوئے۔

ہمارے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ سمی کے دوران ہم نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ حال بے حال، تھکا ہوا، پوچھا بابا جی خیر ہے کہتا ہے، پتہ (بیٹے) فخر کی نماز پڑھی اور میں نے چلنا شروع کر دیا ان لوگوں کے ساتھ اور یہ لوگ بس ہی نہیں کر رہے، ظہر ہو گئی پھر میں نے ظہر پڑھی پھر چلنا شروع کیا عصر ہو گئی اب

میں تھک گیا ہوں مگر یہ لوگ بس ہی نہیں کرتے تو یہ سعی بس کب ہوگی؟ وہ سمجھے  
جیسے جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو اکٹھے سب سلام پھیر دیتے ہیں اسی طرح ہماری  
سعی بھی اکٹھی ختم ہوگی، ہم نے کہا بابا جی اگر آپ یہاں ساری عمر چلتے رہیں گے نا  
تو بھی آپ کو چلنے والے ملتے ہی رہیں گے یہ لوگ کم نہیں ہونگے، لہذا یہ پتہ ہونا  
ضروری ہے کہ سعی کے سات چکر لگانے کے بعد سعی ختم ہو گئی، لوگ سوال پوچھتے  
ہیں کہ ہر چکر میں پہاڑی کے اوپر چڑھنا ضروری ہے؟ ہاں اتنا اوپر چڑھنا کہ  
جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آجائے یہ ضروری ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے  
وہاں پر ایک دوستون ہیں، ہم جب اس ستون کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو  
سامنے ایک اور ستون اور سیڑھی کے درمیان سے سیدھی بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، تو  
ہم وہاں تک جائے ہیں اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، تو اتنا چڑھنا ضروری کہ  
جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آجائے، اب صفائے تو نظر آتا ہے، مرودہ سے تو نظر  
نہیں آتا لہذا مرودہ کے اوپر ہم ذرا زیادہ اوپر چڑھ جائیں تاکہ اس میں کوئی کمی ن  
رہے،

سعی کے اندر اگر کوئی بندہ معدور ہے اور پیدل نہیں چل سکتا گھنٹوں کا درد ہے  
کمر کا درد ہے چلنے سے بڑھنے کا اندریشہ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ سواری کے  
اوپر بھی وہ سعی کر لے تو اس معدور کے لئے اجازت ہے، حتی الوع طواف پیدل  
چل کر کرنا جب تک کہ ایسی کیفیت نہ ہو جائے، اب معدور انسان تو بس  
دو چار قدم بھی نہیں چل سکتا، پھر تو طواف میں سواری کی اجازت ملے گی، تو طواف  
میں ذرا سختی ہے اور سعی میں نسبتاً زیادہ گنجائش ہے، ہاں اگر کوئی مقامی بندہ ہو یا  
قیام لمبا ہو تو علماء نے کہا سات چکر ایک دن لگانے بھی ضروری نہیں، بلکہ اگر چند  
چکر ایک دن لگانے پھر چند چکر دوسرے دن اور اس طرح بھی اس نے سات چکر  
کمل کر لئے تو اس کی سعی مکمل ہو جائے گی، سعی میں اگر وقفہ درمیان میں آجائے

تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، سعی کے اندر گنجائش زیادہ ہے اور طواف میں بھی سات چکروں میں سے چار چکر کا پے در پے (Continue) ہونا ضروری ہے مثلاً ایک آدمی نے طواف شروع کیا وہ چکر کے بعد اس کو بیٹھنا پڑ گیا، اب وقفہ پڑ گیا، تو اب پہلے دو چکر ختم ہو گئے، اب نئے سرے سے طواف شروع کرنا ہوگا، لیکن اگر چار چکر لگا چکا تھا تو چونکہ اکثر حصہ ہو گیا ہے، اب اگر تھوری دیر ک بھی جائے تو اسی کے اوپر بناء کرتے ہوئے مزید چکر مکمل کر لے تو وہ مکمل ہو جائیگا۔

### سعی میں کیا مانگیں؟

اب رہ گئی بات کہ ہم سعی میں دعا مانگیں کیا مانگیں تو بھائی کتابوں میں بہت ساری دعا مانگیں منقول ہیں ان دعاوں کے مضامین یاد کر لیں جن لوگوں کو عبارت یاد ہو سکتی ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے اور جن کو عربی عبارت یاد نہیں ہو سکتی ان کو اس کا مضمون تو یاد ہو سکتا ہے اس کا مفہوم، تو مضمون و مفہوم ذہن میں رکھ کر اس کو اپنے الفاظ میں مانگیں یعنی دل کی تڑپ اور دل کی چاہت سے اگر دعا مانگیں نکل رہی ہوں الفاظ اپنے ہی سمجھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں الفاظ کے بغیر بھی اگر دعا مانگیں گا اللہ اس کو بھی قبول کر لیں گے۔

میرا مالک میری سن رہا ہے صدا

جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان

تو خاموشی بھی ایک زبان ہے، دعا جو ہے اصل میں وہ دل سے نکلتی ہے زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔

دل سے جوبات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہیں طاقت پروا زمگر رکھتی ہے

تو اسلئے یہ کوشش کریں کہ ان جگہوں پر دعا مانگیں پڑھنے کے بجائے دعا مانگیں، اب کئی لوگ اس طرح بھی دعا مانگیں پڑھتے ہیں کہ ان کو مفہوم کا پتہ ہی نہیں

ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ تو اصل مقصد جو ہے، ﴿أَمْنٌ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دُعَا﴾ اس اضطرار کی کنڈیشن میں جب بندہ دعا مانگے گا پھر اللہ کے وہاں دعا قبول ہوگی۔

## حجاج بن یوسف

حجاج بن یوسف ایک شخص تھا اس امت میں جو بہت زیادہ سخت طبیعت رکھتا تھا اور جو اس کے دل میں بات آتی تھی اس کو کر دیتا تھا، ایک دفعہ وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مطاف کے اندر بیٹھ کر ایک اندھا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میری آنکھوں کو بینا کر دے، مجھے روشنی عطا کر دے، وہ حجاج جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا، او انہے! تجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ تو وہ بیچارہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے؟ پوچھا کون؟ کہنے لگا کہ حجاج بن یوسف، وہ تو گھبرا گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا دیکھ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے چند چکراتی ہیں میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں تجھے قتل کروادوں گا اور ساتھ ہی ایک سپاہی بھی متھین کر دیا کہ اندھا بھاگنے نہ پائے، خود طواف کرنے لگ گیا، اب تو انہے کا حال ہی عجیب ہو گیا، دعا مانگنا تھا کہ اللہ پہلے تو میں بینائی کا سوال مانگتا تھا اب تو زندگی کا سوال نہ ہے، اس طرح تڑپ کر اس انہے نے دعا مانگی کہ اس کے طواف فتحم کرنے سے پہلے اللہ نے بینائی عطا فرمادی، حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ جیسے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے، قیامت تک یہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ دعا پڑھتے رہتے تو تمہیں بینائی کبھی نہ ملتی، کیونکہ زبان سے الفاظ نکل رہے تھے دل حاضر نہیں تھا، اب جب تمہیں جان کی فکر ہوئی کہ میری موت اور زندگی کا سوال ہے اب تم نے تڑپ کر دعا مانگی اور جو بندہ اس مطاف میں تڑپ کر دعا مانگے اللہ کبھی اس کی دعا کو روہیں کیا کرتے، تو بھائی ہماری خوش نصیبی ہے

کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظمت والی جگہ پر حاضری تک توفیق عطا فرمائی ہے، بیت اللہ کے سامنے تذپ کر مانگیں، جو مانگیں گے قبول ہو گا،

## موقع کے مناسب دعائیں

تاہم ایک نکتہ میں نے عرض کیا تھا کہ موقع کے مناسب اگر دعا مانگیں گے تو جلدی قبول ہو گی، تو سعی کے درمیان اگر ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو سامنے رکھ کر اس مناسبت سے دعا مانگیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگیں اور بی بی ہاجرہ علیہا السلام نے مانگیں اس صفا اور مروہ کو شعائر اللہ کہا گیا، ان کی مناسبت سے دعا مانگی کے کارے اللہ! جیسے آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو حید خالص عطا فرمائی تھی، شرک جلی اور شرک خفی دونوں سے محفوظ فرمایا تھا، اللہ ہمیں بھی وہی تو حید عطا فرمادیجھے۔

ان کو جو آپ نے مقام خلت عطا کیا تھا اس کی تجلیات میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمادیجھے، بعض کتابوں میں کچھیں ہزار اور بعض کتابوں میں دس ہزار انبیاء ان کی اولاد سے پیدا ہوئے، اللہ آپ ہمیں بھی ابوالاولیاء (ولیوں کا باپ) بنادیجھے، پھر ان کی اولاد میں آپ نے سیدنا رسول ﷺ کو پیدا فرمایا، تو ہماری اولاد میں سے آنے والے وقت میں دین کا کوئی مجد و پیدا فرمادیجھے، اب دعا مانگ سکتے ہیں دعا مانگنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ تو مناسبت سے دعا مانگیں، اے اللہ! اس اعلیٰ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنانے میں اپنے والد گرامی کی معاونت کی ۹۰۷ اذ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۚ انہوں نے تعاون کیا، اللہ ہماری اولاد کو دین کے کاموں میں ہمارا معاون بنادیجھے، دیکھو کتنی دعا میں خود خود نکلتی چلی آئیں گی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کے کارے اللہ! میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب لا کر بسایا، اے اللہ! انسانوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجھے، یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر

دیجئے، تو یہ نعمت اپنی اولاد کے بارے میں بھی مانگیں کہ ہماری اولاد کو دنیا میں عزت ملے، پھر فرمایا ﴿وَإِذْ قُهْمٌ مِّنَ الشَّمَرَاتِ هُنَّ اللَّادُونَ كَوْكَبَنَ كَوْكَلَ عَطَا فَرَمَادِ تَبَعَّهُ، هُمْ بَھِي أَپْنِي اولاد کے لئے مانگیں اے اللہ ہماری آنے والی اولادوں کو بھی حلال طیب پا کیزہ رزق دیجئے ان کو کھانے کوچل عطا فرمادیجئے، ﴿لَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ هُنَّ تَاكَهْ يَهْ نِمَازِيْزِ پَرَھِیْسِ، اَے اللَّهُ هَمَارِي اولاد کو بھی اپنے لئے عبادت گزار بنادیجئے، ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ هُنَّ اے اللَّهُ هَمَارِي اولادوں کو بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں، تو دیکھئے ایک دعاوں کا مضمون آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا اور چونکہ موقع کے ساتھ مناسبت ہو گیں تو اقرب الی الاجابت ہو گی۔

بے اولاد عورتیں جو ہیں وہ دعا مانگیں اے اللہ آپ نے ہاجرہ صابرہ کو اسما عیل جیسا بیٹا عطا کیا اور آپ کو ماں کا تڑپنا اتنا پسند آیا کہ آپ نے پانی کا چشمہ چاری کر دیا اللہ ہمیں بھی یہ بیٹے والی نعمت عطا فرمادیجئے، تو یہ جو دعا میں مانگیں گے تو آپ کو اس میں کتاب دل پڑھنے کی ضرورت ہے کوئی ظاہر کی کتاب دل پڑھتے جائیں اور دعا میں مانگتے جائیں، اور خود بخوبی آپ دیکھیں گے آپ پر کیفیت طاری ہو گی۔

یاد رکھیں جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے اس کو زلانے کے لئے مریثے پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ تو خود روئی ہے، اس کے دل کو غم ہی ایسا ہوتا ہے، کھانا کھاتے بھی رور ہی ہوتی ہے، باتیں کرتے اور سنتے بھی رور ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جگر گوشہ اس سے دور ہے، توجہ دل کی لگی ہو اور بندے کو یہ احساس ہو کہ اے اللہ! آپ نے مجھے اپنے گھر کی نعمت عطا فرمادی معلوم نہیں پھر زندگی میں موقع ملے گا یا نہیں، میرے سر پر گناہوں کے تو اتنے بڑے بڑے گھر ہیں جو میں بخشوانے کے لئے آیا ہوں، جب دل کو غم لگ جائے گا تو پھر آنسو بہانے کے لئے کسی دعا پڑھنے کی کیا

شعر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی خود بخود آنسوں کی زبان سے آپ دعا پڑھا کریں گے، جیسے لوگ الفاظ سے دعائیں لگتے ہیں، آپ اپنے آنسوں سے دعائیں لگیں، یہ جو آنسوں ہے وہ خاموش پیغام دے دیتے ہیں، کسی بزرگ بندے کا ایک عجیب کلام ہے،

جیوالطف ہے روون اندر، وہ وحی یا نہ آوے

تو بھائی رو نے میں ایک عجیب لطف اور مزہ ہے، یہ دل کے میل کو اتارتا ہے اور ناراضِ محبوب کو راضی کرتا ہے، تو جب آپ دل سے دعائیں لگے تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہو گی اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی بخشیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے، صفا پر دعا قبول، مرود پر قبول، جو درمیان میں سبز لائٹوں کے درمیان جہاں مردود ہوتے ہیں تو وہاں بھی دعا قبول، تو یہ قبولیتِ دعا کے مقامات ہیں، اب آپ نے سات چکر اس طرح سے لگانے، تو مقامِ مرود پر پھر آپ دعائیں لگانے اور پھر حرم میں آ کر دور کعت شکرانے کے پڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔

### بال کشانا

اس کے بعد پھر خلق کرو سکتے ہیں، خلق کروانے میں مرد حضرات اگر اس تراپھروں میں تو اس کو خلق کہتے ہیں مشین پھروائیں تو اس کو قصر کہتے ہیں، قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ ہے ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ مگر خلق والوں کا تذکرہ پہلے ہے اور قصر والوں کا بعد میں، اور نبی ﷺ نے جب حجۃ الوداع کے لئے تشریف لے گئے تو آپ ﷺ نے بھی خلق کروا یا اس لئے یہ زیادہ افضل عبادت ہے، تو مردوں کو خلق کروا میں، البتہ عورتوں کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے تمام بالوں کو اکٹھا کر کے کنارے کے اوپر انگشت شہادت پر جتنے بال پیٹ سکتے ہوں مثلاً پونا انجیخ ایک انجیخ اتنے بال خود ہی کاٹ لیں، پوری ایک لٹ نہیں کاٹنی۔

اچھا بال کائیں کے بارے میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں کہ مرد لوگ تو چلو جام سے بال کٹو کر آگئے عورتیں کیا کریں گی؟ اگر کوئی محرم مرد ہے تو وہ ان کے بال کاٹ دے اور اگر محرم مرد نہیں اور سب عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اعمال عمرہ ادا کر لئے صرف بال کٹوانے باقی ہیں تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں اور اگر خود کائیں میں وقت ہے تو دوسری ایسی عورت سے کٹوانے جو تمام اعمال کر چکی ہو، صرف بال کائیں باقی ہوں تو وہ دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہے، مردوں میں بھی یہی مسئلہ ہیں، اب ایسا ہوا کہ کل ہی ایک آدمی یہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ جی دو آدمی تھے انہوں نے عمرہ کیا اور ایک نے دوسرے کے بال کاٹ دیئے تو جواب دینے والا بھی کوئی میرے جیسا طالب علم تھا اس نے آگے سے کہہ دیا کہ اس کے اوپر تودم واجب ہو گیا، حالانکہ اگر سارے اعمال مکمل ہو گئے ہوں صرف بالوں کا کاشنا ہی ایک عمل رہ گیا تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے بال کاٹے جاسکتے ہیں اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔

یہ جو بال اتروانے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، چنانچہ نبی ﷺ کے پاس کوئی آدمی آتا تھا جو کلمہ پڑھتا تھا تو کئی مرتبہ آپ اسے کہتے تھے حلق کرو والو یعنی یہ ایک تعبیر تھی کہ جیسے سر سے بال الگ ہو گئے تو پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے سر کے بوجھ کو اتار دیا۔

اب ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، پھر نہایں میں گے اس کے بعد اپنے کپڑے بدل لیں گے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے اب جتنی بھی چیزیں احرام کی وجہ سے منع تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہو جائیں گی، خوشبو لگا سکتے ہیں، میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اور بھی جو اعمال تھے جو احرام کی وجہ سے منع تھے وہ سب جائز ہو جائیں گے۔

## ایک چونکا دینے والی بات

ایک بات سمجھئے شریعت کا ایک مزاج ہے اور وہ یہ کہ جہاں انسان کے اندر کی  
شہوت، حیوانیت، نسانیت بالکل ختم ہو جائے ان محرم رشتتوں میں مردوں اور  
عورتوں کو اکھنا ہوئیکی اجازت دی، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے،  
پھوپھی ہے وہ محرم رشتے کہ جہاں انسان پر حیاء غالب آتی ہے اور اس کے اندر  
حیوانیت سے انسانیت غالب آجائی ہے ان رشتتوں میں کیا ہوگا اگر مرد اور عورتیں  
ایک دوسرے کے سامنے آبھی جائیں تو تھیک ہے  
اور جہاں محرم نہیں وہاں کیا حکم دیا؟ عورتیں الگ اور مرد الگ، تو شریعت نے  
ایک مزاج دیا، مگر یہاں پر شریعت نے ایسا نہیں کیا کہ دن میں مرد طواف کریں،  
عورتیں رات میں طواف کریں، کوئی نائم کی پابندی نہیں لگائی یا اس نماز کے بعد  
عورتیں طواف کریں اور مرد اس نماز کے بعد کریں نہیں، دن اور رات مردوں کے  
لئے بھی اجازت ہے اور عورتوں کے لئے بھی اجازت ہے یہ کیا اکیں کیا بتلا نا  
چاہتے ہیں؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے بندے  
میری محبت میں ڈوب کر یہ سفر کر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر چہ ایک وقت  
میں ایک میدان میں مرد بھی طواف کر رہے ہیں، مرد بیٹک اندر کی طرف طواف  
کریں عورتیں کناروں پر کریں، جگہ تو ایک ہی ہے، اور آتے جاتے دونوں قریب  
قریب سے ہیں، تو شریعت کا اس میں ایک نکتہ سمجھ لجئے، کہ اللہ رب العزت نے  
یہاں آنے سے پہلے ایک بات سمجھادی کہ اپنے گھروں میں جب تک تم گناہ نہیں  
کرتے تھے تک گناہ نہیں لکھا جاتا تھا، میرا حرم ایسی پاک جگہ ہے ﴿وَمَنْ يُؤْذِ  
فِيهِ بِالْحَادِيْظُلْمِ نُذَقَهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ﴾ ارادہ گناہ بھی کرو گے تو بھی تمہیں  
ہم سخت ترین عذاب دیں گے، معلوم ہوا کہ حرم کے اندر اگر شہوت کی نظر بھی غیر پر  
پڑگئی تو انسان کی سزا اور عذاب کے لئے یہی کافی ہے، اب سمجھ گئے؟ یہاں پر کتنا

سخت قانون کر دیا گیا، اور فرمایا اب ذرا آکر تم میری محبت میں ڈوب کر اکٹھا طواف کرو، مگر مرد بھی میری محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں اور عورتیں بھی میری محبت میں ڈوبی ہوئی ہوں۔

ہم نے دیکھا ہے اللہ کا گھر یہ مطاف، ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر مرد کو مرد انگی یاد نہیں رہتی، عورت کو نسوانیت یاد نہیں ہوتی کہ مرد بھی اللہ کی محبت میں ڈوب اور وہا ہوتا ہے عورت بھی اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا یہ وہ منظر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کہتے تھے کہ یہ جائیں گے فساد مچائیں گے ذرا میرے بندوں کو دیکھو جوانیاں بھی ہے موقع بھی ہے مگر ایک دوسرے کی طرف آنکھ بھی نہیں انھار ہے ہیں، وہ بھی میری محبت میں رورہا ہے، یہ بھی میری محبت میں آہیں بھر رہی ہے، ذرا دیکھو یہ میرے بندے ہیں

ع فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں

ہر طرف سے کٹ گئے میری محبت میں ڈوب گئے اور میری محبت میں ڈوب کر جیسے پروانہ شمع کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے یہ میرے پروانے ہیں گھروں سے چلے تھے میری محبت میں، نعرے لگاتے آئے، دیوانے بلکر آئے، اب دیکھو میرے گھر کا طواف کیسے کر رہے ہیں، انکو کچھ نہیں چاہئے میری محبت چاہئے، اس لئے فرمایا ﴿وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ اللہ کے لئے تمہیں یہ کرنا ہے جب اس طرح طواف کرے گا تو پھر ایسا طواف بندے کے لئے بخشش کا سبب بن جائے گا۔

## ایک مثال

واشنگ مشین میں میلے کپڑے ڈالتے ہیں چکر دے کر میل دور کر کے نکال دیتی ہے کعبہ اللہ کی بنائی ہوئی واشنگ مشین ہے میرے بندو! اپنے میلے دلوں کو لے کر آؤ، یہ واشنگ مشین ہے آؤ طواف کرو ذرا ان شرائط کے ساتھ طواف

کرو، محبت کے ساتھ، تم سات چکر لگاؤ گے، ہم دل کے میل کو دھو کر دلوں کو صاف کر کے تمہیں باہر نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح محبت میں ڈوب کر عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کر فرمائے آئین۔

واخر دعہ انا ان الحمد لله رب العالمين

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾

# لٹواں کعہہ رشم

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

# فہرست عنوانوں

شمار	عنوان	صفحہ
۱	ندائے ابراہیمی پر روحون کی لیک	۱۳۰
۲	زندگی کے سوچ	۱۳۱
۳	خواجہ سراج الدین کا قیام کہ	۱۳۲
۴	ایک عورت کی گریہہ داری	۱۳۲
۵	میراب رحمت کے چند قطرے	۱۳۲
۶	گھر میں کام اور حرم میں انعام	۱۳۳
۷	سچ کے لئے پہلے سے تیاری	۱۳۳
۸	مقامات قبولیت پر توہہ	۱۳۵
۹	ول و نظر و آپریشن	۱۳۶
۱۰	دہریہ کی دعا بھی قبول ہو گئی	۱۳۷
۱۱	دعا کیسے بے اثر کیوں ہو گئیں	۱۳۷
۱۲	اُم اعظم کیا ہے؟	۱۳۵
۱۳	امریکن بڑکی کے اسلام کا واقعہ	۱۳۶

اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

## اقتباس

﴿از افادات﴾

ابراهیم بن ادہم ہر قدم پر دور کعت نفل پڑھتے ہوئے  
بیت اللہ شریف پہنچ اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے  
کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے ہر ہر قدم پر دور کعت  
نفل ادا کرنا، کتنی محبت اور چاہت سے آئے ہوں گے  
تو جتنی دل میں چاہت و محبت ہوگی اتنی ہی پھر یہاں  
رحمتیں اور برکتیں زیادہ ملے گیں انعام بھی زیادہ ملے گا۔

یہ حضرت رہ گئی پہلے سے حج کرنانہ سیکھا تھا  
کفن بردوش جا پہنچ مگر مرنانہ سیکھا تھا

حضرت مولانا پیر  
حافظ ذوالفقار احمد صاحب  
نقشبندی مجددی زید مجدد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، أَمَا بَعْدُ!

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنُوا أَتَخْدُو أَمِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

ندائے ابراہیم پر روحوں کی لبیک

سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو رب کریم کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے خلیل ﴿وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ﴾ آپ لوگوں میں حج کے لئے اعلان کر دیجئے تو ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ اللہ میری آواز تو ساری دنیا میں نہیں پہنچ سکتی، فرمایا کہ میرے خلیل آواز لگانا آپ کا کام ہے اسکو آنے والے انسانوں کی روحوں تک پہنچانا میرا کام ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی تو تمام روحوں نے اس کو سنایا وقت جس روح نے حقیقی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ اسکو بیت اللہ کی زیارت عطا فرمائیں گے، حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے کسی نے ایک دفعہ کہا کسی نے دو دفعہ کہا اور لگتا ہے کہ کچھ تو سر پھرے ایسے بھی تھے جو لبیک لبیک ہی کہتے رہے ہوں گے کیوں کہ انہوں نے زندگی میں پہنچ نہیں کتے حج اور عمرے کئے، حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی ” ہمارے دادا پیر انہوں نے ستائیں حج کئے، ہمارے حضرت مرشد عالم عمر کے

آخری حصہ میں ہر سال حج فرماتے تھے ہمارے ایک پچان والے ہیں تو ان کی بیٹی منی میں پیدا ہوئی اور ماشاء اللہ اگر بالفرض اسکی عمر ستائیں سال ہے تو وہ ستائیں حج کرچکی ہے، ہر سال حج کرتی ہے۔

## زندگی کے سون حج

دو تین سال پہلے کی بات ہے اخبار میں یہ خبر بھی آئی کہ یمن کے ایک آدمی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا حج اس وقت کیا جب میری عمر بیس سال کی تھی اور انکے مطابق ان کی عمر اس وقت ایک سو بیس سال تھی اور وہ زندگی کا سواں حج کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے سو میں سے اسی حج پیدل چل کر کئے ہیں، اللہ کے ایسے بھی بندے بھی ہیں سینکڑوں دفعہ حج کئے تو بہر حال یہ محبت کا ایک سفر ہے

اگر ہیں آپ مخلص اپنے اقرار محبت میں  
طلب خود کرنے جائیں گے دربار محبت میں

محبت جب خالص ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دربار محبت میں طلب فرمائیتے ہیں  
آنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔

## خواجہ سراج الدین کا قیامِ مکہ

یہاں پر ہمارے بزرگ بڑی چاہتوں کے ساتھ، محبوؤں کے ساتھ آیا کرتے تھے حضرت خواجہ سراج الدین<sup>ر</sup> ہمارے سلسلہ عالیہ کے بڑے بزرگ ہیں بڑے عالم تھے اور بڑے علماء کے شیخ تھے وہ حج کے لئے تشریف لائے تو تیرہ دن مکہ مکرمہ میں رہے یہ ان کی کرامت تھی کہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ پیشتاب نہ پاخانہ، تیرہ دن اسی طرح عبادت میں گذارے اور تیرہ دن کے بعد چلے گئے، کسی نے پوچھا کہ کھاتے پیتے کیوں نہیں تو فرمایا کہ اگر میں کھاؤں گا تو قضاۓ حاجت کی بھی ضرورت پڑے گی اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں کالا کتا اس پاک دلیں کو

ناپاک کر جاؤں، اس زمانہ میں بیت الخلاء بھی ایسے ہوتے تھے کہ قلش سشم نہیں ہوتا تھا، یہ ان کی کرامت تھی کہ اتنے دن اللہ نے ان کو بغیر کھانے پڑے طاقت دے دی اور وہ اعمال کرتے رہے تو دیکھیں کون کتنی چاہت اور محبت کے ساتھ آتا ہے۔

### ایک عورت کی گریہ وزاری

ایک مرتبہ ہم لوگ ملتزم پر حاضری کے ارادہ سے کھڑے تھے کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سکیوں کی آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی بہت تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے تو اچانک میں نے پیچھے دیکھا اگرچہ وہاں سارے مرد تھے مگر پیچھے ایک عربی عورت تھی جو زار و قطار رورہی تھی اور اسکی سکیوں کی آواز تھی جب میں نے دیکھا کہ پیچھے قریب میں عورت ہے تو میں ایک طرف ہٹ گیا اسکوراستہ ملا وہ آگے بڑھ گئی اب ملتزم پر لپٹنا چاہتی تھی اور ملتزم پر عام طور پر پولیس والے عورتوں کو نہیں جانے دیتے تو ایک آدمی آگے لپٹا ہوا دعا مانگ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہٹا تو یہ عورت آگے بڑھی پولیس والے نے اسے روکا تو یہ عورت جو رورہی تھی اسے کہنے لگی رُخ لیس بیٹ آئیک پیچھے ہٹ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے اور پھر اسکے بعد جو وہ ملتزم سے لپٹ کر دھاڑیں مار کر رونے لگی تو حیران یا اللہ تیرے بندے اور تیری بندیاں کتنی چاہتوں اور الفتوں کے ساتھ تیرے گھر کے دیدار کے لئے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔

### میزاب رحمت کے چند قطرے

اب تو اگر بارش ہو جائے تو حظیم بند کر۔ یہ ہیں چونکہ مجمع زیادہ ہو جاتا ہے لوگ زخمی ہوتے ہیں پھسلتے ہیں انکو چوٹ لکنے کا خطرہ ہوتا ہے پہلے جب لوگ کم ہوتے تھے تو اس وقت اتنی زیادہ پابندی نہیں تھی ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی تو ہم بھی حظیم میں پہنچ گئے خیال تھا کہ بھی میزاب رحمت سے پانی گرے گا تو شاید کچھ بھینشیں ہم پر بھی پڑ جائیں گے، مجمع ہو گیا وہاں پر لوگ آگے سے آگے

بڑھ رہے تھے اتنے میں ایک عورت کو دیکھا افریقہ ملک کی تھی اور افریقہ ملکوں کی عورتیں اپنے بچوں کو پیشہ پیچھے باندھ کر کپڑے کے ساتھ رکھتی ہیں یہ میکنولو جی انکے پاس بہت زبردست ہے وہ اپنا ہر کام کرتی رہتی ہیں اور پچھے کر کے پیچھے رہتا ہے اب وہ عورت بھی چاہتی تھی کہ میں بھی میزاب رحمت کے پیچے جاؤں لیکن وہاں تو مردوں کا مجمع تھا، جا بھی نہیں سکتی تھی تو اس نے یہ کیا کہ اپنی ایک دوپٹا نما چادر نکالی اور اس کے ایک سرے کے اوپر گانٹھ باندھ دی اور دوسرے کو ہاتھ میں پکڑ کر گانٹھ والا سرازور سے پھینکا جیسے دھاگے کے ساتھ پھر باندھ کر پھینکتے ہیں تو جب اس نے پھینکا تو وہ چادر لمبی ہوئی اور وہ گانٹھ والا حصہ میزاب رحمت سے جو پانی گر رہا تھا اس پانی کے ساتھ جا کر نکل ریا تو پانی اسے لگ گیا تو وہ بہت خوش ہو گئی کہ اب مجھے مقصود مل گیا تو ہم نے سوچا کہ اب دیکھیں کہ اس پانی کو کیا کرتی ہے، پھر وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے بچے کو کمر سے اٹھا کر گود میں ڈالا اور وہ پانی جو میزاب رحمت کا اس کپڑے کو لگا تھا اسکو وہ اپنے بچے کے منہ کے اندر نجود نے لگی، ماں کی مامتا دیکھوا پنے معصوم بچے کے منہ میں میزاب رحمت سے گرنے والے پانی کے چند قطرے ڈال رہی ہے کہ میرے بچے کو اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں تو آنے والے کس چاہت اور محبت کے ساتھ آتے ہیں۔

### گھر میں کام اور حرم میں انعام

یہاں آنے کے لئے کسی نے تہجد میں دعائیں مانگی ہوں گی تقوی بھری زندگی گذاری ہو گی پتہ نہیں کس محبت کو ساتھ لے کر آئیں ہوں گے تو یہ عاشقانہ سفر ہے ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے جیسے کل بتایا کہ ابراہیم بن ادہم ہر قدم پر دور کعت نفل پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف پہنچے اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے ہر ہر قدم پر دور کعت نفل ادا کرنا، لکھی محبت اور چاہت سے آئے ہوں گے تو جتنی دل میں چاہت و محبت ہو گی اتنی ہی پھر یہاں رحمتیں

اور برکتیں زیادہ ملے گیں انعام بھی زیادہ ملے گا اسی لئے کہتے ہیں کہ گھر میں کام اور حرم میں انعام، جو بندہ اپنے گھر میں رہ کر دین پر عمل کرتا ہے سنتوں کے مطابق زندگی گذارتا ہے، تقویٰ والی خشوع و خضوع والی زندگی گذارتا ہے، جب وہ وہاں کام کر کے پھر حرم میں آتا ہے تو وہ یہاں آ کر انعام پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اسکے لئے خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں تو اس محبت کے سفر کو یکھ کر آنا پڑتا ہے تاکہ جو کام بھی کریں چاہتہ کے ساتھ کریں۔

یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا  
کفن بر دوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا  
یہ دیوانے کچھ ہوشیار اگر پہلے سے ہو جاتے  
حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے

## حج کے لئے پہلے سے تیاری

جس بندے نے باکنگ کا مقابلہ کرنا ہوا اگر آپ اسکو دیکھیں تو کبھی وہ جو گنگ کر رہا ہوتا ہے تو کبھی وہ لیدر کے بنے ہوئے ملکے کے مار رہا ہوتا ہے، پوچھا جائے کہ بھی کیا کر رہے ہو؟ کہہ گا کہ میں تیاری کر رہا ہوں، اگر میدان سے باہر تیاری کروں گا تو جب مقابلہ کے لئے میدان میں جاؤں گا تو وہاں پر اچھا مظاہرہ کروں گا، اگر تیاری اچھی ہو تو پرفارمنس بھی اچھی (performance)، اور تیاری زیرو، تو پھر پرفارمنس بھی زیرو، بالکل وہی بات ہے کہ ہم نے اگر گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت والی، اتباع سنت والی زندگی کی کوشش کی ہوگی اور پھر یہاں آئے ہیں تو اسکے مطابق ہی ہمیں انعام ملے گا اور اگر وہاں محنت نہ کی ہوں تو یہاں بھی وہی حال ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت  
سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

دشمن کے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ تیری تنخ سے ہلاک ہوتا یہ تو دوستوں کے سر  
سلامت رہیں جن کے اوپر تو خنجھر کو آزماتا ہے

بلواف کعبہ رفتہ حرم راہ نہ دادند

کہ بروں چہ کار کر دی کہ درون خانہ آئی

میں طواف کے لئے گیا حرم میں تو مجھے اندر کاراستہ نہ ملا اور مجھے یہ کہا گیا کہ تم  
باہر کیا کرتے پھرے ہو کہ اب تم میرے گھر کے اندر کاراستہ تلاش کرتے ہو۔

### مقامات قبولیت پر توبہ

اب ہم تو اپنے گناہوں کے انبار لیکر پہنچے ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ اب اس کا  
ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں، اللہ کو  
منائیں اور جتنے مقامات قبولیت دعا کے ہیں ان پر جا کر اللہ سے دعائیں مانگیں،  
دعا میں قبول ہونے کا ایک مقام ہے ملتمز یعنی حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان  
کی تھوڑی سی جگہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اجب یہاں پر تشریف لاتے  
تھے تو سینہ مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے اور خسار مبارک بھی لگا ہوا ہوتا تھا  
جیسے پچھے مال کے سینے سے لپٹ جاتا ہے اللہ کے پیارے جیبیں ﷺ اس طرح  
ملتمز سے لپٹ جایا کرتے تھے، عمر قریۃ ماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا جب نبی دعا کر کے  
ہٹے تو میں نے دیکھا کہ آنکھیں پرم تھیں آنکھوں میں آنسو تھے تو مجھے دیکھ کر نبی  
نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بھائے جاتے ہیں تو واقعی یہ ایسا ہی ہے کہ  
جیسے محظوظ کے سینے سے کوئی لپٹ جائے۔

ہمارے ایک دوست تھے جو سعودی عرب میں کام کرتے تھے عمرے کے لئے  
آئے ملتمز پر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو حافظ ہنادے، کہتے ہیں کہ  
دعا مانگ کر جب میں حرم سے باہر آیا تو مجھے خیال آیا کہ بیوی بچوں کے ساتھ  
پاکستان گئی ہوئی ہیں، کیوں نہ میں اسے فون پر بتا دوں کہ میں نے بچے کے لئے

یہ دعا مانگی ہے، کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا جیسے دروازہ گھولافون کی گھنٹی نج رہی تھی میں دوڑا ہوا آیا اور فون انھالیا پوچھا کون تو بیوی نے پاکستان سے کال کی تھی، میں نے خیریت پوچھنے کے بعد وجہ دریافت کی تو کہنے لگیں کہ ہاں میرے دل میں یہ بات آرہی تھی کہ میں بچے کو حافظ بناؤں میں آج اسے مدرسہ میں قاری صاحب کے پاس بٹھا کر آئی ہوں اور اطلاع دینے کیلئے ہی آپ کوفون کر دیا، یہاں میں دعا مانگ کر گیا وہاں اللہ نے بیوی کے دل میں بات ڈال دی وہ بچے کو مدرسہ میں بٹھا کر آگئی، یوں دعا میں قبول ہوتی ہیں۔

### ون وند و آپریشن

ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پرائیویٹ پاور جیمز شن کا معاملہ چلا کہ بڑے بڑے فیکٹریوں والے اپنی بجلی خود بنا میں تاکہ ملک بجلی میں خود کفیل رہے، تو اس وقت کی حکومت نے ایک بات بڑی عام کی اسکو کہا جاتا تھا 'ون وند و آپریشن' وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسا ادارہ گھولا کہ جب کوئی بندہ وہاں فال لے کر بچنے جاتا تھا حکومت کے ہر بھگے کا بندہ وہاں موجود ہوتا تھا تو جو کام ہوتا تھا وہیں مستادیتے تھے تاکہ جلدی سے اس کا کام ہو جائے، اسکا نام انہوں نے دیا تھا 'ون وند و آپریشن' کہ ایک کھڑکی پر چلنے جاؤ سارے کام تمہارے یہیں سمیٹ دیں گے، خیروہ 'ون وند و آپریشن' کیا ہونا تھا، ہم نے اپنی زندگی میں 'ون وند و آپریشن' یہاں دیکھا ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ وہ در ہے جو چوبیں گھنٹہ کھلارہتا ہے اور واقعی یہ 'ون وند و آپریشن' ہے کوئی دنیا کا بندہ کوئی مسئلہ لیکر آئے، صحت سے متعلق ہو، رزق سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق ہو کسی بھی پریشانی سے متعلق ہو یہ ایسی وند و ہے یہ ایسا دروازہ ہے کہ جب وہ یہاں آ جاتا ہے تو اسکو پھر کسی دوسرے در کی پر جانے کی حاجت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ سارے مسئلے ادھر ہی حل کر دیتے ہیں، ہمارے دل میں اگر یہ کیفیت ہو تو واقعی یہ ایسا مقام ہے اس لئے جب ہم دعا مانگیں گے تو یقین کے

ساتھ مانگیں گے اور اسکی برکتیں بھی ہوں گی،

## دہریہ کی دعا بھی قبول ہو گئی

یہ عاجز جس زمانے میں ایک فیکٹری کے اندر الینٹریکل میختر تھا تو ایک اور میختر وہاں آئے جو نوجوان تھے پہلے فوج میں کام کرتے تھے وہاں سے چھٹی لیکروہ پر ایک شگر میل کے اندر آگئے اس نوجوان کو ہم نے دیکھا زندگی میں ایسے بہت کم خوبصورت نوجوان دیکھے ہوں گے ایسے لگتا تھا جیسے وہ واقعی بوڑی بلڈنگ کرتا ہو، اسکے سینے کی چوڑائی دیکھ کر انسان حیران ہو جائے بالکل پتی ہی کر اور اسکے بازو ایسے بنے ہوئے تھے کہ جب وہ چلتا تھا تو اسکو چلتے دیکھ کر بندہ حیران ہوتا تھا، نقش نین بھی بہت خوبصورت تھے اور پھر اس نے اپنی بوڑی کو بنایا بھی زبردست تھا ہزاروں میں کوئی ایسا خوبصورت جسم والا نوجوان نظر نہیں آتا، ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ چلو ایک اچھا نوجوان آگیا اللہ کی شان چند دن کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ صاحب تو دہریے ہیں، وہ کیسے؟ بھثو کے زمانے میں انہوں نے تعلیم پائی اور اس زمانہ میں ایشیا سرخ ہے نہیں ہے یہ بڑے نعرے لگا کرتے تھے اور شیا کا عمل غلط بہت زیادہ تھا لگتا تھا کہ یہ کیونیزم پوری دنیا میں غلبہ پائے گا ایسا زمانہ تھا تو یہ صاحب بھی ایسے ہی تھے کہ کچھ کمیونسٹوں سے ان کا رہن سہن رہا، علیک سلیک رہی اور یہ بھی کیونیزم کا شکار ہو گئے اب یہ جو کیونٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا بلکہ انسان نے اللہ کے تصور کو پیدا کر لیا ہے وہ تو خدا یہ ارلوج ہوتے ہیں وہ دین کو افیون، کہتے ہیں کہ یہ دین افیون ہے جو کھالیتا ہے اسکو کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی اللہ کی شان ہمیں ایک نوجوان انجینئر نے تایا کہ یہ صاحب تو بالکل ہی دہریے ہیں اور صاف کہتا ہے اس نے اصل میں انجینئر کے ساتھ کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے کہہ دیا کہ جتنا تم خدا سے ڈرتے ہو میں نہیں ڈرتا، اب اس قسم کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا تو نوجوانوں پر تو یہ

بات بڑی گراں گذری، خیر میں نے ان سب کو سمجھا دیا کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ الجھنا نہیں، خاموشی سے بس اپنا کام کریں، کبھی موقع ہوا تو میں اس سے خود بات کروں گا میرا ان کے ساتھ ہر وقت سابقہ رہتا تھا تھا کیونکہ وہ میکینکل کے انچارج تھے اور میں الیکٹریکل کا، اور دونوں نے مل کر کام کرنے ہوتے تھے، ہر پرو جیکٹ ہم نے مل کر کرنا ہوتا تھا تو ایک دن میں ہمیں بیسیوں دفعہ بات چیت، مشورہ کرنا پڑتا تھا، خیر کچھ عرصہ جب گذر اتواس نوجوان نے اپنے اور پر پرزے نکالنے شروع کر دیئے، ایک دن وہ کسی جنازے میں شریک ہوا اور واپس جا کر انخیزیر کو کہنے لگا کہ میں جنازہ پڑھنے گیا تھا بس پندرہ نیس قبروں کو ہاتھ لگا کر دیکھا ان میں سے گرم تو کوئی بھی نہیں تھی یعنی وہ طنز کر رہا تھا کہ تم جو قبر کے عذاب کا تصور لئے بیٹھے ہو سب فضول ہے، میں نے دس پندرہ قبروں کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو کوئی بھی گرم نہیں تھی، خیر اس نے ایک دو مرتبہ میرے سامنے بھی ڈارون تھیوری کے بارے میں بات شروع کی تو چونکہ یہ تھیوری اس عاجز نے بھی پڑھی ہوئی تھی تو اس سے بات کی کہ تمہارا لا آف نیچرل سلیکشن، اور سروائیول آف ڈنی ٹیسٹ، جب اسی اصطلاح میں اس سے بات کی تو اسکو یہ محسوس ہو گیا کہ اس بندے نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، یا ایزی نار گیٹ نہیں ہے اب یہ مجھ سے ذرا بات کرتے ہوئے گھبرا تھا اور باقی لڑکوں سے کبھی کبھی بات کر لیتا تھا مگر باقی لڑکے میرے کہنے کے مطابق چپ تھے ہمارا سلسلہ چلتا رہا میں جب نماز پڑھنے کے لئے جانے لگتا تو کبھی کبھی اسکو کہتا کہ آؤ بھئی آپ بھی نماز کا مزہ چکھیں کہ کیا ہوتی ہے، ایسی بلکل پھلکی بات کرتا، اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک انخیزیر صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کوئی اپنی بات کرنے لگے کہ گھر کی یہ پریشانی وہ پریشانی اور اب خرچہ پڑ گیا ہے اور میرے پاس ابھی گنجائش نہیں تو اس نے آگے سے یہ الفاظ کہے کہ کیا پریشان رہتے ہو؟ آئے گا کہاں سے، میں پریشان رہتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں؟ اسکی وجہ یہ کہ اسکا برا بھائی میجر تھا اور انکے اپنے کئی مربع زرعی زمین کے تھے

سرگودھا میں، اور خود یہ بھی اچھی نیز تھا تو جتنی تشوّاہ ہوتی تھی وہ سیدھا ہینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی جاتی تھی، پہلے ہی سے کافی ویلیو والا آدمی تھا تو اتفاق یہ نوجوانی میں لاکھوں پتی انسان تھا تو جب اس نے یہ باتیں کیں تو میں نے اس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کی لائھی بے آواز ہے جو الفاظ آپ نے زبان سے نکالے ہیں یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہیں تکبر کے بول ہیں، بہتر ہے کہ توبہ کرو، کہنے لگا کہ توبہ توبہ کروں جب خدا کو مانوں میں ٹو مانتا ہی نہیں، میں نے کہا پھر جب وقت آئے گاتب مانو گے یہ پتہ نہیں اس وقت کاماننا فائدہ دیگایا نہیں؟ مگر مانو گے ضرور، اسلئے کہ فرعون نے بھی کہا تھا آمنش برت پ مُوسَى وَهَارُونَ بُرْرَے بُرْرَے فرعونوں نے مان لیا، میری بات سن کر یہ چپ ہو گیا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی عمر کوئی چھبیس ستائس سال ہو گی اس وقت اس نے شادی کرنے کا ارادہ کیا اب چونکہ یہ بڑے خاندان کا لڑکا تھا شکل عقل ہر اعتبار سے اللہ نے اسکو عزت دی تھی تو اسکی توبات نکلنی تھی کہ رشتتوں کی بھرمار ہو گئی اب یہ دل کی بات میرے ساتھ کرتا تھا مجھے کہنے لگا کہ امی پریشان ہے کہ اس وقت سونکے قریب رشتے آئے ہوئے ہیں چونکہ مالی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ شکل میں بھی انہیاں خوبصورت، خاندان میں بھی اونچا تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ اس کا رشتہ ہمارے خاندان میں ہو جائے، مجھے پوچھنے لگا کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ ایسا کرو اسکو شارٹ لست کرو اور پانچ دس رشتے جو محسوس ہوتے ہیں کہ تمہارے ساتھ موافقت زیادہ اچھی ہو گی وہ لے لو اور ان پانچ دس بندوں سے ملاقات کرو، کہنے لگا ٹھیک ہے، اب شادی کی تیاریاں مان نے بھی شروع کر دی اور یہاں بھی ذہنی طور پر تیار اور اس نے فہرست بنالی کہ میں فلاں سے ملوں گافلاں سے ملوں گافلاں مجھے دیکھیں گے اور میں انکو دیکھوں گا اس دوران ایک دن جب ہم ففتر پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی کہ کل ان صاحب کا ایک ہلکا چھلکا سا ایکسی ڈینٹ ہو گی تو آج وہ ڈیوٹی پر نہیں آئے، خیر آفرز شام کو ان کا پتہ کرنے کے لئے گئے تو ان کو ایک دو جگہ چھوٹی موٹی

سوئے ہر کم بڑا ختم نہیں تھا میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی سڑک بالکل خالی تھی اور میں تو اپنے اسکوڑ پر بڑی مناسب اپیڈ سے جارہا تھا اچانک ایسے جیسے کوئی بلکل سی غشی ہوئی اور مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں نیچے گرا ہوا تھا یہ تو اللہ کا شکر کر کوئی بس نہیں آ رہی تھی، ہم نے کہا چلیں الحمد للہ اللہ نے مہربانی کر دی، پھر دوسرا سے تیر سے دن پتہ چلا کہ یہ صاحب اپنے ہی کوئی کے لان میں چل رہے تھے کہ چلتے اچانک خود گرنے اور پھر چوت آئی اب جب گرے اور چوت آئی تو پھر اس کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے ایک آدمی نے بتایا کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا آپ نے پہلے ایک پاؤں اٹھایا اسکو کھ کر اٹھانے کی بجائے ساتھ ہی دوسرا پاؤں بھی اٹھایا اور نیچے گرنے اس نے ڈاکڑوں سے رجوع کیا ڈاکڑوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کا دائیں اور با میں طرف جانے والا جو گنگل سشم ہے وہ کہیں شاث ہو جاتا ہے، لمبا کام ہے خیر کافی دن اس کو گذر گئے اتنے میں ایک نئی بات شروع ہو گئی ہاتھوں پر اسکو پسینہ اور پسینہ اتنا کہ پانی شپتا تھا یعنی اس نے چار پانچ چھوٹے رومال رکھے ہوئے تھے جو بالکل گیلے ہو جاتے تھے وہ بڑا حیران ہوا اور ڈاکڑوں سے رجوع کیا انہوں نے کہا کہ فلاں مسئلہ ہے چنانچہ نوسر جنس کا ایک بورڈ بنا اور سب نے ملکر کوئی آپریشن کیا کوئی آٹھ گھنٹے کا لمبا آپریشن تھا خیر کچھ عرصے کے بعد یہ ریکور ہوا اور اس کا جو پسینہ تھا وہ نسبتاً کم ہو گیا اب ہم مطمئن ہوئے کہ چلواس یہماری سے جان چھٹی اللہ کی شان یہ اللہ کی لاٹھی عجیب بے آواز ہوتی ہے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک دن یہ اٹھا اب اس کی آنکھیں ایک جگہ فوکس نہیں کر رہی بلکہ ایک گلاں کے دو گلاں نظر آرہے ہیں، ایک بندے کے دو بندے نظر آرہے ہیں، اب اسکو یہ بھی نہیں پتہ کہ سامنے والا کہاں ہے میں اسکو سلام یہاں کروں یا یہاں کروں ہر طرف سے فارغ ہو کر دفتر بیٹھ گیا اب اسکا کیا علاج کروایا جائے؟ مالک نے بھی کہہ دیا کہ جی آپ کو دو مہینے ہو گئے آپ قیکشی کے اندر راوٹ بھی نہیں کر سکتے اور مزدوروں کو صحیح کام بھی نہیں بتا سکتے

تو آپ اپنا علاج کروا میں بعد میں پھر نوکری پر آئیں تو فتر سے اسکو چھٹی مل گئی، اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس دوران اسکو ملیریا بخار ہو گیا اور چونکہ اسکی دفاعی قوت بہت کمزور ہو چکی تھی اسلئے بخار جان نہیں چھوڑ رہا تھا، پتہ چلا کہ وہ کئی مہینوں کے لئے گھر چلے گئے دو مہینوں کے بعد مجھے خیال آیا کہ بھی وہ ہمارے دوست ہیں کوئی اتنا پتہ نہیں کوئی رابطہ نہیں تو ان کا پتہ تو کر کے آئیں، چنانچہ میں سرگودھا ان کے گھر گیا مگر میں ان کو پیچان نہ پایا، اس وقت ادا کا وزن مشکل سے کوئی ساٹھ کلوگرام ہوگا اتنا پتا دبلا سا جیسے بچہ ہوتا ہے اور وہ بسز پر لیٹا ہوا تھا اور اتنی کمزوری کہ وہ خود کروٹ نہیں بدل سکتا تھا اور کپڑے اس کی والدہ بدلتی تھی اتنی کمزوری کہ اسکے منہ میں لقہ اسکی ماں ڈالتی تھی اور آواز بھی نہیں نکلتی تھی میں نے اُن بی کے مریض بھی اتنے کمزور نہیں دیکھے جتنا کمزور وہ ہو چکا تھا اور پہلے اسکی صحت ہمارے ذہنوں میں ایک آئینڈیل ہوا کرتی تھی اس حال میں دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو آگئے خیر میں نے اسے تسلی دی اللہ صحت دیکا وہ میری باشیں ستارہ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں فیکٹری کے مالک سے بات کروں یہ ایک نوجوان ہے اگر کہیں پوری دنیا میں اسکا علاج ممکن ہے تو ہمیں کروانا چاہئے میں نے ان سے کہا کہ میرا یہ خیال ہے اور جا کر بات کروں گا اور امید ہے کہ وہ مالک میرے ساتھ کافی اچھا مناسب تعلق محبت رکھتا ہے وہ میری ایک وعدہ کریں، پوچھتا ہے کیا میں نے کہا جب آپ صحت مند ہو کر آئیں گے تو آتے ہوئے آپ عمرہ کر کے آئیں گے اب یہ تو خدا کو نہیں مانتا تھا لیکن دوستی میں اس نے سر ہلا دیا، واپس آکر میں نے اپنے چیر میں سے بات کی اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ ہی معلومات کریں میں نے ورڈ ہیلتھ کو خط لکھا کہ اس طرح ایک پیشہ ہے اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اسکو مستحبنا گریوس، کی بیماری ہے تواب آپ بتا میں کہ اسکا دنیا میں کہیں علاج ہے انہوں نے مجھے فوراً خط کا جواب

دیا کہ ویسے تو یہ لا علاج بیماری کہی جاتی ہے لیکن کنیڈا کے ایک ڈاکٹر ہے کہ جس کی بیوی اسی بیماری میں متلاحتی اس نے بیوی کی خاطر دن رات ریسرچ کی اور اس نے بیوی کا کامیاب علاج کرنیا پھر اسکے بعد اس نے کوئی آشہ پیشہ کا علاج بھی ٹھیک کر لیا ہے تو آپ اس سے رجوع کریں اسے خط لکھا اس نے کہا کہ ہاں میں اتنے پیشہ کو ثریث کر چکا ہوں اگر یہ پیشہ آگیا تو میں اتنے پیسے لوں گا بہت بڑی اماؤنٹ اس نے بتائی مگر فیکٹری کے جو مالک تھے وہ نیک دل تھے انہوں نے کہا جتنا بھی اس کا خرچہ ہو گا پرواہ نہیں اس کو بھیجو چنانچہ ہم نے اس کی بھی نکٹ بنوائی اور بنوائی بھی سعودی عرب یہ ایر لائنز سے، اسلئے کہ آتے جاتے توجہ جانا ہی پڑے گا تو بھائی اسکو عمرہ کروادی گا بھائی نے چھٹی لے لی ہم نے اس کو رخصت کیا ایک مہینہ کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ وہ واپس آگئے کنیڈا سے اور انکی صحت اب بہت ٹھیک ہو گئی ہم ان کو ملنے کے لئے گئے، اللہ کی شان کہ جب ملنے کے لئے گئے تو یہ برا مسکرا کر ملا اور پھر اسکے چہرے پر ہم نے سرفی ذرا دیکھی اور اس کا مناسب بھرا ہوا جسم دیکھا، اس نے پاس بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ پہلے نماز پڑھیں گے یا پہلے کھانا کھائیں؟ اب اسکی زبان سے نمازن کرتے مجھے بھی تعجب ہوا میں نے کہا ہاں پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر کھانا کھائیں گے، اس نے نماز بھی ساتھ پڑھی پھر اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی کہنے لگا کہ جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ واپسی پر آپ عمرہ کر کے آنا تو میں اپنی زندگی سے مايوں ہو چکا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ میری تسلی کی خاطر بات کر رہے ہو اور چونکہ میں نے آپ کو اپنی زندگی میں ایک مخلص دوست پایا اسلئے میں نے آپ کی وجہ سے ہاں کر دی تھی ہم کنیڈا گئے ڈاکٹر نے مجھے آئی سی پو میر، ڈال دیا، سب میرے کپڑے اتار کر اس نے میرے ساتھ تاریں لگادیں، کہیں سے کوئی سکنل آرہا ہے، کہیں سے کوئی سکنل آرہا ہے میرے جسم سے بیسوں تاریں کمپیوٹر میں جاری ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ایک چیز کا سکنل وہ جانچ رہے

ہیں چند دن کے بعد ڈاکٹر نے میرے پورے جسم کے خون کو سینٹری فیوز کے ساتھ کلین کیا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے خون کو مشین کھینچ لیتی ہے اور پھر باقی خون کو سسٹم میں دوبارہ ڈال دیتی ہے، کہنے لگا کہ پندرہ دن میں یہ عمل کوئی تین مرتبہ کیا اور بالآخر میرے بھائی کو بلا کر کہہ دیا کہ ایک دفع کرنے پر میرے پیشہ دھکی ہو جاتے ہیں میں نے اسکا تین دفع کیا اسکا کوئی اثر نہیں پڑا میری نظر میں یہاں اپنے بستر مرگ پر ہے چند دنوں کا مہمان ہے، اس نے والدہ کوفون کیا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا اگر اس نے کچھ دنوں میں فوت ہی ہونا ہے تو بجائے مردہ لغش لیکر آنے کے تم اسے زندہ لیکر ہی آ جاؤ، میں اپنے بیٹے سے مل لوں کوئی بات ہی کرلوں، چنانچہ بھائی نے کہہ دیا کہ اسکو ڈس چارج کر دو، اس نے ڈس چارج کر دیا ہم نے بڑی کوششیں کر کے اپنی سیٹ بک کروائیں لیکن سیٹ جدہ تک کی تھی، جدہ سے آگے لا ہو رہفتہ میں ایک فلاٹ ان دنوں ہوا کرتی تھی تو اب کوئی فلاٹ ہی نہیں تھی، ہمیں خواہ خواہ دو تین دن انتظار کرنے پڑ گئے ایسے پورٹ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو ثرا نزیث ویزادے دیتے ہیں آپ جدہ شہر پلے جائیں ہوئیں میں رہیں چونکہ پیشہ دھکی ہے اور جب دو دن کے بعد فلاٹ ہو تو آپ پلے جانا، اب بھائی مجھے لیکر جدہ شہر ہوئی میں آگیا ایک دن مجھے کہنے لگا کہ وہ جو تمہارے مولوی صاحب دوست تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اسکو عمرہ کرو کر لانا تو کیا خیال ہے میں تمہیں حرم لے جاؤں، تو میں نے سر ہلا دیا اس نے مجھے وہیل چیر پر بٹھایا اور لیکر حرم آیا، میں مطاف کے اندر بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے تھے تو میں جیران ہو رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں طواف کیا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میں تو کسی چیز کو مانتا ہی نہیں تھا، کچھ دیر بیٹھا رہا تو مجھے کے بعد میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی کہ اے اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے صحت دے

دے تاکہ میں کل اس گھر کا پیدل چل کر طواف کروں، [وہ شخص بیت اللہ کے سامنے یہ دعا مانگ رہا ہے] بس میں نے یہ دعا مانگی اور یہ نیت کر لی کہ میں نےدوا ایساں نہیں کھانی، میں واپس آیا اور بھائی کو کہہ دیا کہ میں نےدوا ایساں نہیں کھانی، خیر رات کو سو کراگلے دن اٹھا تو میں اپنے آپ کو تھوڑا تندرست محسوس کر رہا تھا میں نے اسے کہا مجھے آج لے جاؤ، مجھے پھر بھائی دوسرے دن حرم لا لایا اور میں نے اپنے پاؤں پر چل کر بیت اللہ کا طواف کیا جب مکمل کر لیا تو میرے دل میں بات آئی کہ خدا نے توبات پوری کر دی اب تو بھی توبات پوری کر، میں نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا کہ اے اس گھر کے مالک! میں تجھے اپنا خدا مانتا ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں ”ایک دھریہ بندہ اگر حرم میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے مولیٰ اتنا کریم ہے کہ اسکی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے تو اگر کوئی ایمان والا اس گھر کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے سامنے دامن پھیلائے تو وہ مالک اسکی دعاؤں کو کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟“

## دعا میں بے اثر کیوں ہو گئیں

مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے دل غیر میں اٹکے ہوتے ہیں حرم پہنچ کر بھی اس کا خیال اسکا خیال، اسکو متوجہ ہو رہے ہیں اسکو فون ہو رہے ہیں اسکے کال کی انتظار ہے جب یہاں پہنچ کر ہی دل غیر سے خالی نہیں تو پھر دعا میں کیسے قبول ہوں گی؟ نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی حرم میں جانے والی عورتوں کو للچائی نظرؤں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حرم میں اگر جب غیر کی لائق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جھوپی میں کیا ڈالیں گے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے دینے کے لئے بلا دیا لیکن یہاں آ کر ہمیں شیطان نے غیر میں الجھاد یا اور غیر میں الجھنے کی وجہ سے اب ہماری دعا میں بے اثر ہو گئیں، وہ زبان سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگ رہے ہوتے، اور اثر تو دل کی دعا کا ہوتا ہے۔

دل سے جوبات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے  
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

ہمارے دل تو حاضر نہیں ہوتے اور اللہ رب العزت کے یہاں تو شرط ہی یہی ہے کہ میرے بندوں! دل کو میرے سامنے حاضر کر لودل کو صرف میری محبت سے بھرلو اور غیر کی محبت کے اثرات سے خالی کر لو پھر دامن پھیلاوے گے میں پروردگار تمہارے دامن کو بھر دوں گا، یہاں پچھی توبہ کر کے دیکھئے کہ اے مولیٰ میں نے ہر لات اور منات کو توڑاً لا ایک آپ کی پچھی محبت اپنے دل میں رکھ لی اور پھر دیکھئے اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں ہوتی ہیں جو پروردگار دہریہ بندے کی دعاوں کو قبول کر کے دکھادیتا ہے وہ پروردگار کلمہ پڑھنے والے بندے کی دعاوں کو کیوں قبول نہیں کریگا؟

جیسے سیل فون کے اندر ایک کی لوک ہوتا ہے اگر وہ لوک لگ جائے تو آپ جس کی کوچا ہے دباتے رہیں کال اٹینڈ، ہی نہیں ہوتی بالکل اسی طرح یہ مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت دعا کے لئے ایک لوک ہے یہ لگ جاتا پھر جو مرغی بٹن دباتے رہیں اللہ یہ دے اللہ وہ دے سکنل ہی نہیں جاتا اس سُمل کو بھینج کے لئے اس لوک کا کھولنا ضروری ہے

### اسم اعظم کیا ہے؟

اسلنے فرمایا کہ میرے بندے تو میرے گھر میں آیا ہے اب تو اپنے دل کو میرے مساوا سے خالی کر لینا، اب تو غیر سے اپنی توجہ کو ہٹالے، پھر ایسی کیفیت میں جب اللہ سے مانگیں گے کہ دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو اللہ ایسی دعاوں کو بھی ردنہیں فرمائیں گے اس لئے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب دل غیر سے خالی ہو اور پیٹھ حرام سے خالی ہو زبان سے نکلنے والا ہر اسم بندے کے لئے اسم اعظم بن جایا کرتا ہے ہم بھی ایسے دعا میں مانگ کر دیکھیں۔

## امریکن لڑکی کے اسلام کا واقعہ

امریکہ میں ایک اشیت ہے واشنگٹن، وہاں جانے کا موقع ملا تو بیان کے بعد جو مسجد کے متولی تھے وہ آئے اور کہنے لگے کہ ایک امریکن لڑکی ہے جو مسلمان ہو چکی ہے اتنی پکی مسلمان ہے کہ اس لڑکی کو دیکھ کر غفلت میں پڑی ہوئی مسلمان عورتیں نیک ہو جاتی ہیں اور وہ نماز پڑھتی ہے تو اتنے سکون اور تسلی سے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، بڑے اہتمام سے وضو کرتی ہے پھر اسکے بعد بڑے خوبصورت چونے بنائے ہوئے ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر وہ چونغ عبا یا پہنچتی ہے، اللہ نے فرمایا: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ تم مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو تو وہ اس پر عمل کرتی ہے کہ مصلی میری مسجد ہے اور مصلی پر قدم رکھنے سے پہلے مجھے پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اچھی خوبصورتگا کروہ مصلی پر آتی ہے اور اتنا ڈوب کر نماز پڑھتی ہے کہ بسا اوقات ایک نماز پڑھنے میں اسے پونا گھنٹہ لگتا ہے لوگ کہتے بھی رہتے ہیں کیا تم بیٹھی رہتی ہو، بجدے میں پڑی رہتی ہو وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا پتہ میں نماز میں اپنے رب کے ساتھ کس کیفیت میں ہوتی ہوں، اس عورت نے بیان سناؤاس نے متولی سے کہا کہ میرے لئے ان سے تھوڑا سا وقت لیں میں ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، چنانچہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک جگہ پر وہ لگا ہوا تھا پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئی دوسری طرف یہ عاجز تھا اس نے سوال پوچھنے شروع کئے، اس کے زیادہ تر سوال دین اور سائنس یار و حانیت اور دین سے متعلق تھے، خیریہ عاجز اسکو بات بتاتا رہا دو گھنٹے بات چیت ہوتی رہی پھر اس نے کہا کہ اللہ نے میرا دل بالکل مطمئن کر دیا جو سوالات میرے ذہن میں آتے تھے میں نے سب باتیں آج پوچھ لیں، گفتگو کے اختتام پر میں نے اسکو کہا اچھا ایک سوال میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان کیسے ہوئیں؟ چونکہ جب بھی کوئی نیا مسلمان

ہوتا ہے تو اسکے واقعہ میں کوئی ناکوئی ہمارے لئے نصیحت ہوتی ہے، وہ کہنے لگتی کہ میں عیسائی عورت تھی اور میرا خاوند یہودی، دونوں انحصاری تھے اور ہم دفتر میں کام کرتے تھے اس دوران ہماری کمپنی نے جدہ میں آفس کھولا تو انہوں نے ایک سرکیو ر بھیجا کہ اگر کوئی جدہ جانا چاہیں تو تختواہ بھی ڈبل کر دیں گے اور تین چار سال کے لئے سہولیات بھی دیں گے تو ہم میاں بیوی نے سوچا کہ وہ ایک نیا ملک بھی دیکھ کر آئیں اور تختواہ بھی زیادہ لیں چلو، ہم جاتے ہیں ہمیں انہوں نے بیچج دیا، ہم امریکہ سے جدہ آگئے اب بھی کبھی رات کا کھانا کھانے کے لئے باہر ہوٹل کی طرف نکلتے تو میں کچھ لوگوں کو دیکھتی کہ سفید چادر لپیٹی ہوئی ہے اور سرنگا ہے اور جارہے ہیں میں خاوند سے پوچھتی کہ یہ کیا معاملہ ہے وہ مجھے کہتا کہ یہاں ایک جگہ ہے جس کو مسلمان کعبہ کہتے ہیں اللہ کا گھر کہتے ہیں یہ لوگ وہاں جاتے ہیں کوئی عبادت کرنے کے لئے تو میں کہتی کہ مجھے بھی وہاں لے چلو وہ کہتا کہ وہاں تو کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تو میں پریشان ہو جاتی ایک دن میں نے اپنے خاوند کو تجویز دی کہ میں مسلمان عورتوں کی طرح ایک لباس ایک رومال خرید لیتی ہوں اور اسے سر پر اوڑھ لیتی ہوں اور آپ بھی سر پر ٹوپی رکھ لیں ہم چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، اگر پوس نے روک لیا تو واپس آ جائیں گے اور اگر نہیں روکا تو شاید ہم بھی وہ جگہ دیکھ کر آ جائیں گے، ہم میاں بیوی نے ایسا ہی کیا اللہ کی شان کہ جہاں چیک پوسٹ تھی وہ وقت ایسا تھا کہ ڈیوٹی تبدیل ہو رہی تھی تو زیادہ لوگ آ جا رہے تھے ایک ہی فوجی کھڑا تھا اور چونکہ ٹرینیک تھی تو وہ سب کو اشارہ کر رہا تھا کہ چلو، ہماری گاڑی قریب آئی تو اس نے دور سے دیکھا کہ ٹوپی ہے سر ڈھکا ہوا ہے مسلمان ہے چلو جاؤ ہم نکل گئے مکہ مکرمہ میں جا کر گاڑی کھڑی کی پوچھا لوگوں سے کہ کعبہ کہاں ہے انہوں نے جگہ بتا دی، اب ہم دونوں حرم میں داخل ہوئے جیسے مطاف کے اندر پہنچے اور ہماری نظر بیت اللہ پر پڑی تو ہم دونوں ٹھٹھک کر رہے گئے اتنا عجیب منظر تھا جیسے آسمان سے نور بر سر رہا اور طواف کرنے والے ایسے

فرشتوں کی طرح لگ رہے تھے پھٹی آنکھوں سے ہم کعبہ کو دیکھتے رہے تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے خاوند کی آنکھوں میں سے بھی آنسوں پلک رہے تھے اور میری آنکھوں میں سے بھی آنسوں پلک رہے تھے میں نے خاوند سے پوچھا کیا ہوا؟ تو خاوند مجھے کہتا ہے آنسوں پلک (Its Something Rial) یہ سچ ہے تو میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر سچ کو ماننے میں انکار کیوں؟ اور دریکیسی؟ ہم نے فقط بیت اللہ کو دیکھا اور بیت اللہ پر محبت کی ایک نظر ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان سے نواز دیا تو اگر بیت اللہ پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے تو اللہ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں تو اگر ایمان والے آئیں گے محبت بھری نظروں سے دیکھیں گے تو کیا کیا نعمتیں پائیں گے۔

ہم اس وقت اپنی زندگی کا ایک بہترین وقت گذار رہے ہیں یہ وقت معلوم نہیں پھر کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا اسلئے جو وقت باقی ہے مطاف میں گذاریں رات میں قبولیت دعا کے مقامات پر جائیں دعا میں مانگیں اپنے اللہ کو منا کیں اللہ تعالیٰ تو ماس سے زیادہ بندے سے محبت فرماتے ہیں وہ بڑے کریم ہیں مگر ہماری اپنی تلاکتیوں نے ہماری دعا و اُب کو رسیاں باندھی ہوئی ہوتی ہیں یہ دعا میں اور پرہی نہیں جاتی۔

ہے عمل لازم تجھیل تمنا کے لئے  
ورنہ رنگیں خیالات سے کیا ہوتا ہے  
بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے  
دھرتی بخیر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے

تو ہم دل کی دھرتی کو بخیر نہ بنائیں بلکہ اخلاص کے ساتھ بیت اللہ کے سامنے جا کر اطمینان والی دور کعت پڑھیں زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں بھاگی دوڑی والی، کہ سچان ربی الاعلیٰ صرف تین مرتبہ، وقت بھی ہوتا ہے جانا بھی کہیں نہیں ہوتا لیکن عادت پڑی ہوئی ہے بس تین مرتبہ کہنے کی، بس تین مرتبہ کے بعد ختم، کچھ

زیادہ دفعہ پڑھ کر دیکھیں، ہم نے زندگی میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جو ہر نماز کے ہر سجدے میں اکیس مرتبہ سجان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، مزہ آتا تھا، ہم بھی تسلی و سکون کے ساتھ دور کعت پڑھیں اور پھر اللہ سے دعائیں مگر طواف میں اللہ سے دعائیں ملترم سے لپٹ کر دعا مانگیں جمرا سود کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگیں باب کعبہ کے سامنے، مقام ابراہیم پر، حطیم کے اندر جا کر، سجان اللہ اتنے موقعے اللہ نے دینے کا شکر کیفیت کے ساتھ دعا اگر مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت میں دریں گے ہوگی،

چھی تو بہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں، دن تو تھوڑے ہی رہ گئے جب آئے تھے تو بڑی تمنا تھی کہ بہت دن رہنا ہے اب آج حیران بیٹھے ہیں کہ کل مدینہ طیبہ روانگی ہے آج ہی کی رات ہے واپس آئیں گے تو پھر بھاگ بھاگ ہوگی وقت بہت کم ہے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر ہم اللہ رب العزت سے خوب جی بھر کر مانگے اور اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کریں کہ اللہ!

رہے طلب میں سوار سب ہیں  
پیدا دہ مثل غبار میں ہوں  
تیرے گلستان میں گل تو سب ہیں  
بس اک اگر ہے تو خار میں ہوں  
مجھے بھی کچھ فکر آ خرت ہو  
بہت ہی غفلت شعار میں ہوں  
رہا میں بے کار زندگی بھر  
بس اب تو مشغول کار میں ہوں

گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا  
چھوٹے نالہی اب سنگ در جانا ناہ

اے اللہ بڑی دور سے آیا ہوں بڑی دیر سے آیا تیرے دروازہ کی چوکھت کر کر  
کر اللہ تجھے منانے آیا ہوں، اپنے رب کو منا لیجھے رب کریم اس پر قادر ہیں کہ  
زندگی کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں، اللہ رب العزت ہمارے سفر  
کو وصلیہ ظفر بنادے۔ آمین۔

وَآخِر دُعَاءِ النَّاسِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾

# العاصم باری تعالیٰ

از افادات

حضرت مولانا پیرزاد الفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

## فہرست عنوانوں

شمار	عن	اوین	صفحہ
۱	مقصد حج		۱۵۳
۲	مومن کے امتحان		۱۵۵
۳	انعام کا بیان		۱۵۵
۴	عشق و مسی کا سفر		۱۵۶
۵	عاشقانہ اعمال اور ادایں		۱۵۷
۶	شریعت کا حسن		۱۵۸
۷	ایک نکتہ		۱۵۹
۸	لقاءِ الہی کی انتظارگاہ		۱۵۹
۹	دعا کی قبولیت کا نہر امور		۱۶۰
۱۰	دعا میں کیسے قبول ہوں؟		۱۶۱
۱۱	نیکوں کی بھتی میں اللہ کی رحمت		۱۶۲
۱۲	دعاء قبولیت کے تعین کے ساتھ ہو		۱۶۵
۱۳	رب کے ساتھ تعلق کیسا ہو؟		۱۶۷
۱۴	اللہ والے حج کیسے کرتے ہیں؟		۱۶۹
۱۵	مالک بن دریار کا واقع		۱۷۱
۱۶	توپ کی ضرورت		۱۷۲
۱۷	ایک واقع		۱۷۳
۱۸	حاجی کیلئے خوبخبری		۱۷۵
۱۹	یاد رکھنے کی بات		۱۷۷

اللہ اللہ اللہ

## اقتباس

﴿از افادات﴾

یہ عاشقانہ سفر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جنون کی  
حد تک جنون ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو  
کپڑوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ ایسے ہی جو کپڑے اوڑھ  
لے بس اوڑھ لئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی حج کے سفر میں حکم  
دیا کہ میرے بندوں یہ جو ظاہر کی زیب و زینت ہے اس کو تم ختم  
کرو اور بس دو کپڑے اپنے اور پا اوڑھ لوا اور آؤ میرے گھر کی  
طرف

حضرت مولانا پیر  
حافظ ذوالفقار احمد صاحب  
نقشبندی مجددی زید مجدد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى  
أَمَّا بَعْدُ! أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يٰسُمِّ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ  
﴿وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ  
رَبِّ الْعَلَمِينَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

### مقصد حج

ہر بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو اللہ رب العزت سے محبت ضرور ہے، کسی کوکم کسی کوزیادہ، لیکن جو کامل مومن ہوتے ہیں ان کی یہ پیچان ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا اشْدُحُّبًا لِلّٰهِ﴾ کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، ایمان والے اللہ سے ثوث کر پیار کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور جب محبت کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو پھر اس کام کے اندر انسان کو لطف اور مزہ آتا ہے۔

حج اور عمرہ کی عبادت کا عمل، اس کو ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کرنا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ﴾ اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے کرو خالصۃ لوجه اللہ اپنے رب کو راضی کرنا مقصود ہو، اصل مقصد جدول میں ہو وہ یہ کہ میر اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔

اب اس کا ایک فلسفہ ہے، میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی آدمی اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو محبوب اس کی محبت کو جانچتا ہے، تاپ توں کرتا ہے کہ یہ اپنی

محبت کے دعوے میں سچا ہے کہ نہیں، مومن نے کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ بھی مومن کو آزماتے ہیں۔

## مومن کے امتحان

آزمائش دو طرح کی ایک مالی اور دوسرا جانی:

کبھی مالی امتحان ہوتا ہے کبھی جانی امتحان ہوتا ہے مالی امتحان تو اللہ تعالیٰ نے رجب شعبان میں لیا کہ مومن کو حکم دیا کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو جس مومن نے اپنے مال میں سے صحیح صحیح زکوٰۃ ادا کر دی یوں سمجھیں کہ وہ A پیپر میں کامیاب ہو گیا اب B پیپر جو تھا جس کو جانی امتحان کہتے ہیں اس کے لئے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا اس پیپر میں مومن کا جانی امتحان لیا، اس کو کہا کہ دن میں کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں اور میاں بیوی کے تعلقات سے بھی پرہیز کرتا ہے یہ چیزیں جو سال کے دوسرے دنوں میں جائز تھیں رمضان المبارک میں دن کے اوقات میں اس پر پابندی لگادی کہ میرا یہ بندہ اس پابندی میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں؟ لہذا جس مومن نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے وہ B پیپر میں بھی کامیاب ہو گیا یعنی مالی امتحان میں بھی کامیاب اور جانی امتحان میں بھی کامیاب، اے پیپر میں بھی پاس اور بی پیپر میں بھی پاس اور رجب امتحان میں کوئی پاس ہو جاتا ہے پھر اس کو انعام دیا جاتا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے انعام حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر بلایا آؤ میرے گھر کی طرف میں تمہیں اس عمل پر انعام دوں۔

## انعام کا مہینہ

اس لئے ہمارے بزرگوں نے ایک مختصری بات کہی کہ رمضان المبارک کام کا مہینہ ہوتا ہے اور ذی الحجه انعام کا مہینہ ہوتا ہے رمضان المبارک کام کا مہینہ ہوتا ہے یعنی عبادت کا مہینہ اور ذی الحجه انعام کا مہینہ ہوتا ہے تو حج کے موقع پر مومن کو اللہ

تعالیٰ کی طرف انعام ملتا ہے لہذا جیسے رمضان المبارک ختم ہوا اب آپ اگلے دن سے حجٰ کا احرام چاہیں تو باندھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی طرف بلا یا آؤ میرے بندو میرے گھر کی طرف۔

### عشق و مستی کا سفر

چنانچہ یہ جو حجٰ کا سفر ہے یہ عشق و مستی کا سفر ہے محبت کا سفر ہے جیسے کوئی محبت اپنے محبوب کو ملنے جاتا ہے تو دل میں بڑی امتنگیں ہوتی ہیں بڑی آرزوئیں ہوتی ہیں بڑی تمنائیں ہیں کہ میں اپنے محبوب سے ملوں گا میں ایسے بیٹھوں گا میں یہ با تمنی کروں گا بالکل مومن اسی شوق اور جذبہ کے ساتھ حجٰ کا سفر کرتا ہے چنانچہ یہ عاشقانہ سفر ہے آپ نے دیکھا ہو گا کہ جو لوگ جنون کی حد تک مجnon ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو پیڑوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ ایسے ہی جو کپڑے اوڑھ لئے بس اوڑھ لئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی حجٰ کے سفر میں حکم دیا کہ میرے بندو یہ جو ظاہر کی زیب و زینت ہے اس کو تم ختم کرو اور بس دو کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لواور آؤ میرے گھر کی طرف اور جوزینت کے اسباب ہیں وہ بھی اختیار نہیں کرنے، نہ ناخن کٹوانے ہیں نہ خوبیوں کا فی ہے نہ بال کٹوانے ہیں نہ جسم سے میل ہشانی ہے تم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا یہ عاشقانہ سفر ہے جیسے عاشق اپنے محبوب کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بس اپنے محبوب سے ملنے ہی کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے اور کسی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا وہ لوگوں سے نہیں الجھتا، وہ لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اسلئے فرمایا کہ اب تم کو حجٰ کے سفر پر آنا ہے تو تین شرطیں تمہارے اوپر ہیں ﴿فَلَا رَفِثْ وَلَا فُسْوَقْ وَلَا جَدَالَ فِي الْحَجَّ﴾ حجٰ میں ایک تورفت نہیں کرنا رفت کہتے یہ جونقسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں ہیں اس قسم کا بے شری کا کوئی عمل، غلط دیکھنا، دل میں کسی کے بارے میں غلط آرزو تمنا رکھنا اس کو رفت کہتے ہیں۔

فسوچ کہتے خلاف شرع کام کرنا مثلاً نکلے توج کے سفر پر اور فجر کی نماز ہی قضا، نیند پوری ہو رہی ہے یہ فشق و فجور سے بھی بچنا ہے، آئے ہوئے ہیں حج کے سفر پر اور کمرے میں ٹی وی پر پروگرام بھی دیکھے جا رہے ہیں تو اس فشق و فجور سے بھی بچنا ہے۔

﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ﴾ اور تیسرا کام یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھنا بھی نہیں مثلاً میں پہلے بیٹھوں گا، اس جگہ پر بیٹھوں گا اس مدد میں نہیں الجھنا، اور یہ کام وہی بندہ کر سکتا ہے جو اندر سے اپنے آپ کو مار دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم آرہے ہو میرے گھر کی طرف اب اپنے آپ کو تم اندر سے بالکل اس طرح مٹا دو جس طرح کوئی اندھا انسان دنیوی امور کے اعتبار سے اندر سے مردہ ہوتا ہے، دنیا سے اپنی توجہ کو ہٹا لو کوئی تمہارے ساتھ اگر زیادتی بھی کر دے تو برداشت کر لو تمہیں ادھر اور کوئی چیز متوجہ بھی کرے تو آنکھ اٹھا کر ہی نہ دیکھو اسلئے کہ تمہارا مقصد کچھ اور ہے اگر تم ان تین باتوں سے نج گئے اور پھر تم نے حج کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے بندے کا حج حج مبرور ہوتا ہے اور حج مبرور جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ حج سے واپس اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا تو مقبول اور مبرور حج کا انسان کو اشارة یادہ اجر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بندے کو بالکل پاک کر دیتے ہیں سرے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اسلئے یہ حج مبرور ہم سب کو حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں مانگنا ہے تو یہ عشق و مستقیم کا سفر تھا۔

## عاشقانہ اعمال اور ادا میں

چنانچہ مومن جب آتا ہے تو آتے ہی اس کو سب سے پہلے طواف کرنا ہوتا ہے اب آپ خود سوچئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود یعنی اللہ فی الارض ہے

تو جھر اسود گویا زمیں میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے جیسے محبوب کے ہاتھوں کو انسان بوسہ دیتا ہے تو جس شخص نے جھر اسود کو بوسہ دیا وہ یوں سمجھے کہ گویا اس نے محبوب حقیقی کو بوسہ دیا اور جس طرح انسان اپنے محبوب سے معافہ کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگی ایسا ہی ہے جیسے اس نے محبوب حقیقی سے لپٹ کر اپنی فریاد پیش کی ہو، غلاف کعبہ کو پکڑا تو یوں سمجھیں کہ اس نے محبوب کے دامن کو پکڑ کر فریاد کی، پھر جس طرح شمع کے گرد پروانا ہوتا ہے تو مومن کو کہا کہ تم اس طرح اس گھر کے چکر لگاؤ تو یہ دیکھئے کہ یہ سب محبت ہی کی یا تین ہیں محبت آہیں بھرتا ہے نعرے لگاتا ہے تو فرمایا تم بھی تلبیہ پڑھو لبیک اللہُمَّ لبیکَ حاضر ہوں اے میرے پروردگار! میں حاضر ہوں تو بار بار سبق یاد دلایا کہ دیکھو تمہارا صل مقصد کیا تھا کہ تم نے ہر چیز کو اللہ کے لئے چھوڑ دیا ہر چیز سے رُخِ مُوڑ لیا اور تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے لہذا اب تم لبیک لبیک پڑھتے ہوئے میرے گھر کی طرف آؤ۔

### شریعت کا حسن

چنانچہ مومن آکر یہاں طواف کرتا ہے اور دوسرے اعمال کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ حج کرنے کے لئے اس کو عرفات کے میدان میں اکٹھا ہونا پڑتا ہے، دیکھیں یہ شریعت کا حسن ہے اگر اللہ تعالیٰ دور کعت نماز اس میدان میں آکر پڑھنے کو حج بنادیتے تو ہمارے لئے تو مشکل ہی ہو جاتی، کتنی عورتیں ہوتیں کہ ہزاروں روپے خرچ کرتیں، وقت خرچ کرتیں جب یہاں پہنچتیں توہ ایام نماز پڑھنے کے نہ ہوتے تو وہ تو حج سے ہی محروم ہو جاتی، کتنے ہم جیسے بوڑھے ہوتے کہ عین جماعت کے وقت ان کے وضو ہی ابھی نہ ہوتے تو وہ ویسے ہی جماعت سے رہ جاتے، اللہ رب العزت کا کرم دیکھئے اور شریعت کا حسن دیکھئے کہ جو بندہ اس موقف کے اندر نویں ذی الحجه کو زوال سے غروب کے درمیان پہنچ گیا گویا اس نے قوف حاصل

کر لیا وہ حج اس کا عمل ہو گیا، نبھی سے پوچھا گیا حج کیا ہے؟ فرمایا اللہ حج العرفہ کہ عرفات کے میدان میں جا پڑ رہا جانا یہ گویا کن اعظم ہے تو اللہ رب العزت کا کرم دیکھئے کہ اس نے ہم عاجز مسکینوں کو آج کے دن عرفات کے اس میدان میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی آج کے اس دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوبن پر ہوتی ہے کیوں کہ یہ محبت کا سفر تھا۔

### ایک نکتہ

اس لئے دیکھئے کہ طواف بھی کیا تو دوائیں سے بائیں کی طرف، تاکہ انسان کا دل طواف کرتے ہوئے ہمیشہ کعبہ کے قریب رہے، ورنہ عام طور پر تو انسان گھڑی کلاک واٹز جس کو کہتے ہیں اس سمت میں چکر لگاتا ہے مگر نہیں طواف میں کہا گیا کہ تم این ٹی کلاک واٹز کرو کیوں؟ اس لئے کہ اس سمت میں جب تم طواف کرو گے تو تمہارا دل میرے گھر کے زیادہ قریب رہے گا مجھے یہ چاہئے کہ تم اپنا دل میرے قریب کرو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے یہ کیا عشق و مسی کا سفر ہے۔

### لقائے الہی کی انتظارگاہ

چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں اور کیسی مہربانیاں بندے کے اوپر ہوتی ہیں تو عرفات کے میدان میں آج اللہ تعالیٰ کے چاہئے والے پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے، قبیلوں سے آج ایک جگہ پر جمع ہیں یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والوں کی انتظارگاہ ہے اور اس انتظارگاہ میں آج ہم سب منتظر بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو چنانچہ اس انتظارگاہ میں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمادی لوگ تو تمنا کرتے ہیں، شاعر نے کہا تھا۔

سنا ہے کل ترے در پر بحوم عاشقان ہو گا

اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں

اور آج تو یہاں هجوم عاشقان ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے کوئی اپنی تہجد لیکر آیا، تقویٰ لیکر آیا، پاک دامنی لیکر آیا رزق حلال لیکر آیا عبادت لیکر آیا پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کو مناتے مناتے بالآخر س جگہ پر اپنا انعام وصول کرنے کے لئے آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پختے ہوئے بندوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔

## دعا کی قبولیت کا سنبھارا موقع

اس اجتماع میں ہمارے لئے دعائیں مانگنا یہ بہت آسان ہے چونکہ اکیلا بندہ اگر کچھ مانگے تو ممکن ہے کہ اس کی بات کو رد کر دیا جائے لیکن جب مل کر کچھ لوگ مانگیں تو بات جلدی قبول ہوتی ہے ایک بزرگ تھے جب مجمع میں دعائیں لگتے تو فرماتے کہ بھی ہماری دعا قبول ہو گئی تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی فرمانے لگے کہ بھی یہ بتاؤ کہ اگر اتنا مجمع جو عرفات میں ہے یوں سمجھ لیں کسی سخنی کے دروازے پر چلا جائے اور جا کر اس سے ایک ریال کا سوال کرے تو کیا وہ سخنی اتنے مجمع کو ایک ریال دیکر بھیجے گا یا خالی ہاتھ بھیجے گا؟ اس نے کہا کہ اتنے بڑے مجمع کو تو ریال دیکر ہی بھیجے گا انہوں نے کہا میاں دنیا دار بندے کا ایک ریال دینا مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے سب کے لئے سب کے گناہوں کو بخش دینا آسان ہے اس لئے جب اتنے بندے مل کر دعائیں مانگے گیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کیوں نہیں فرمائیں گے، تو اس لئے آج کے دن گناہوں کی مغفرت آسانی سے ہو جاتی ہے، بندے کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مہربانیاں ہوتی ہیں لہذا آج کا دن عام معافی کا دن ہوتا ہے، حکومتیں بھی کئی مرتبہ اپنی پوکی بتاتی ہیں کہ جی ٹیکس کی چھوٹ ہم نے دیدی فلاں دن تک عام معافی ہے تم یہ رژن جمع کروادو معاف کر دیں گے یوں سمجھئے کہ آج خالق حقیقی نے ہم سب کو بلا لیا کہ آج تم اپنے جتنے گناہوں سے میرے سامنے تو بکرو گے جتنی درخواستیں

میرے آگے پیش کرو گے آج تمہارے سب گناہوں کی معافی دے دی جائے گی یہ  
عام معافی کا دن ہے جہاں یہ نیکوں کے لئے درجہ پانے کا دن ہے وہاں ہم جیسے  
گنہگاروں کے لئے بھی گناہ بخشوونے کا دن ہے اسلئے کہ ان نیکوں کے ساتھ ہم  
جیسے گنہگاروں کا بھی کام بن جائے گا ہم نے دیکھا ہے جب گندم توں جاری ہوتی  
ہے تو گندم کے اندر چھوٹے چھوٹے مٹی کے اگر ذرے بھی ہوں تو وہ بھی گندم کے  
بھاؤ تل جاتے ہیں اگر گندم سے جدا کر دیتے تو اس کثی کی کنکر کوں گندم کے بھاؤ  
خریدتا، اس کو جو تے کے نیچے لوگ دینا پسند کرتے ہیں اس کو تو اٹھا کر پھینک دیتے  
ہیں لیکن گندم کے ساتھ مل کر وہ کنکر اور مٹی بھی گندم کے بھاؤ تل گئی ہمارا بھی وہی  
حال ہے آج ہم اس انتظارگاہ میں جمع ہیں اللہ کے نیک بندوں کا یہ مجمع ہے جہاں  
ان نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوئی وہاں ہم جیسے گنہگاروں کی خطا میں بھی  
معاف کر دی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بھی آسانیاں فرمادی اسلئے  
اپنے ذہن میں یہ لیکر بیٹھئے اے اللہ میں آپ کو منانے کے لئے آیا ہوں بڑی  
دور سے آیا ہوں اور بڑی دری سے آیا ہوں آپ ہی کی توفیق سے مجھے یہ موقع ملا ہے  
لہذا اب آپ مجھ پر مہربانی فرمادیجئے، ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بھی انسان اپنے  
گھر اسی کو بلاتا ہے جسے اچھا سمجھتا ہے جس کو ناپسند کرتا ہوا سے گھر بلانا تو کیا اپنی کلی  
میں سے اس کا گذرنا بھی پسند نہیں کرتا تو اللہ رب العزت نے جب اپنے گھر  
بلالیا تو یہ اس بات کی کچی دلیل ہے کہ رب کریم کی رحمت ہم پر پڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ  
کچھ دینا چاہتے ہیں بھی دنیا کے کئی اپنے گھر بلا کر کسی کو خالی نہیں لوٹاتے تو اللہ رب  
العزت تو اپنے در پر بلا کر اپنے بندوں کو خالی کیوں لوٹاتے میں گے لیکن اب ہمارے  
مانگنے پر محصر ہے ہم کتنے عاجز بن کر، مغضطرب ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔

### دعا میں کیسے قبول ہوں؟

سب ایک ہی جیسی دعائیں مانگتے ہیں ہم بھی وہی دعائیں مانگتے ہیں پیلو لیاء

اللہ بھی وہی دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور ہماری نہیں ہوتی وجہ کیا ہے؟ ہم جب مانگتے ہیں تو ہمارے دل غیر سے خالی نہیں ہوتے ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور دل کی نگاہیں غیروں پر پڑ رہی ہوتی ہے ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے کہ انسان مانگے تو دل تڑپ رہا ہوں اور دل سو فیصد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو پھر اللہ تعالیٰ ایسی دعاوں کو یقیناً قبول فرماتے ہیں ہم پورا سال لوگوں کے سامنے اپنے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرا کار و بار اچھا نہیں چل رہا، میرا قرضہ نہیں اتر رہا بھی ہم ان بندوں کو کیوں کچھ بتا سیں جن کے اپنے پاس وسائل بھرے ہوئے ہیں اور جس کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے خود پر بیشان ہوتے ہیں، مسئلے اگر بتانے ہیں تو اس پرور دگار کے سامنے کہیں جوان مسئلکوں کو مل کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ پروردگار عالم جو ہماری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے پر بیشانیوں کو دور کر سکتا ہے جو ہمیں برکتیں عطا کر سکتا ہے کامیابیاں دے سکتا ہے جو ہماری مانگی ہوئی ہر ہر تمنا کو پورا کر سکتا ہے تو پروردگار سے مانگے لہذا آج ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے رب کے سامنے خوب ڈٹ کر دعا کریں مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہئے اس لئے کہ مانگنا جو اللہ سے ہوا؟ وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا اللہ دے مجھے ایک لاکھ کروڑ فلاں فلاں ریال یا ایسا کچھ کہا تو سننے والے نے کہا بھائی اتنا زیادہ؟ اس نے کہا مجھ سے تو نہیں مانگا اللہ سے مانگا ہے تو جب مانگنا اللہ سے ہے تو بھائی اس میں کمی کیوں کریں، ہم محتاج ہیں کیوں اللہ سے نہ مانگے؟ ہم کیوں غیر کے سامنے اپنے شکوے کریں تو ہم اللہ رب العزت سے مانگے کیس اور دیکھئے ایک ضروری بات کہ دنیا سے مانگو تو دنیا والا ایک دفع دے دیگا دوسرا دفع کترائے گا اور تیسری دفع صاف انکار کر دیگا لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک دفع مانگو وہ دیتا ہے دوسرا دفع مانگو وہ دیتا ہے تیسری دفع مانگو وہ دیتا ہے بلکہ جتنی دفع مانگو اتنی دفع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے ہر حال

میں اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنایتے ہیں اپنا ولی بنایتے ہیں فرماتے ہیں یہ بندہ میرے سوا کسی سے مانگتا ہی نہیں یہ میرا ولی ہے اور میرا دوست ہے تو جب اللہ تعالیٰ اتنا دینے والا ہیں تو کیوں نہ ہم اللہ رب العزت سے مانگے؟ لہذا آج قبولیت دعا کی ان گھڑیوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں مگر مانگنے سے پہلے ہم دل سے جو ادھر ادھر کی غلط تمنا میں ہیں آرزی میں ان کو ختم کریں غلط محبتوں کو ختم کریں غلط محبتوں کو ختم کریں نفسانی بتوں کو توڑیں۔  
بتوں کو توڑتھیں کے ہوں کہ پھر کے

جب تک یہ دل بت خانہ بنار ہے گا اس وقت تک قبولیت دعا والی بات نصیب نہیں ہو گی تو آج اس محفل میں اپنے من کو غیر سے خالی کر لیجئے دل کو سمجھا لیجئے  
تَرْكُثُ الْأَلَاثُ وَالْعُزْرَى جَمِيعًا كَذَلِكَ يَفْعُلُ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ  
میں نے ہر لات اور منات کو چھوڑ دیا کسی نے کسی بندے کو لات و منات بنایا ہوتا ہے کے کے لئے کار و بار لات و منات بنایا ہوتا ہے کسی کے لئے عہد لات و منات بنایا ہوتا ہے ہر وہ چیز جو ہمیں خلاف شرع کام کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ ہمارے لئے لات و منات کی حیثیت رکھتی ہے آج ہم ان بتوں کو توڑ کر جب اللہ کے سامنے دامن پھیلا کیں گے پھر دیکھئے اللہ رب العزت ہمیں کیسی قبولیت سے نوازتے ہیں اللہ رب العزت کی یقیناً ہم پر مہربانی ہو گی ایک بات ہے کہ لوگ تو یہاں نیکیاں لیکر آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا نیک عمل لیکر آتے ہیں ہم وہ اللہ کے گنہگار بندے ہیں جو اپنے گناہوں کے بوجھ سر پر لیکر آگئے مگر یہ خوشی کی بات ہے کہ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں اگر کسی دنیادار کی طرف آئے ہوتے پھر واقعی خطرے والی بات تھی آئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں لہذا مہربانی والی بات ہے کسی شاعر نے کہا۔

وَفَتَتْ عَلَى الْكَرِيمِ

من الْأَعْمَالِيِّ وَالخَلْفِ سَلِيمٍ

فَإِنْ زَادَ قَبْلَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  
إِذَا كَانَ الْوَفْدُ عَلَى الْكَرِيمِ

کہ میں ایک کریم کے در پر حاضر ہوا ہوں بغیر کسی سامان سفر کے لیکن اگر کریم کے پاس جانا ہو اور بندہ اپنا کھانا لیکر اس کے دستر خوان پر جائے تو اس کھانے سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میرے دستر خوان پر تم گھر سے کھانا لیکر آئے کیا میرے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ کہتا ہے کہ ہم آئے کریم کے در پر ہیں اسلئے اگر خالی ہاتھ بھی آگئے ہیں تو فکر کی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کریم ہیں ہم اس کے در پر آئے ہم نیکوں والے وہ اعمال نہ کر سکے جو کرنے چاہئے تھے لیکن بہر حال یہاں حاضر تو ہو گئے اللہ رب العزت مہربانی فرمادیں گے، دیکھئے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں جہاں اللہ کے اتنے نیک بندے اللہ سے مانگ رہے ہوں گے وہاں ہم جیسے گنہگار مانگے گے تو ان شاء اللہ ان کی بھی دعائیں قبول ہو گئی۔

### نیکوں کی بستی میں اللہ کی رحمت

بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قاتل تھا جس نے سوبندوں کو قتل کیا تھا اور وہ توبہ کی نیت سے نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا بھی راستے میں تھا کہ اس کی موت آگئی اب جب موت آگئی تو رحمت کے فرشتے بھی لینے آئے اور عذاب والے فرشتے بھی، رحمت کے فرشتے کہیں تو بہ کی نیت سے چل پڑا تھا ہم لیکر جائیں گے اور عذاب والے فرشتے کہیں کہ کہ سو بندوں کا قاتل ہے ہم لیکر جائیں گے چنانچہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بندہ توبہ کی نیت سے گھر سے چل پڑا تھا اب یہ دیکھو کہ اگر نیکوں کی بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو پھر تو توبہ میں سچا تھا، لہذا نیک والے فرشتے اس کو لیکر جائیں تو روایت میں آتا ہے کہ اس بندے کو موت اس جگہ آئی تھی جہاں دونوں بستیوں کی بالکل درمیان کی لائن تھی

اور مرتبہ مرتبہ اس کی لغش نیکوں کی بستی کی طرف گر گئی تھی اتنا ہی قریب ہوئی تھی اتنا قریب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی بخشش فرمادی اگر نیکوں کی بستی کے قریب اس کی لغش ہو گئی اس پر اللہ مغفرت فرماتے ہیں تو بھی آج ہم بھی تو نیکوں کی بستی میں آئے ہوئے بیٹھے ہیں یہ جو عرفات کا میدان ہے یہ بھی ایک دن کی بستی ہے ساری دنیا کے نیک لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہاں آ کر فلاں مفتی صاحب ہیں فلاں بزرگ ہیں فلاں شیخ الحدیث ہیں فلاں حافظ ہیں قاری ہیں عالم ہیں سبحان اللہ کیا کیا اللہ کے نیک بزرگ یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ دل میں یہی لیکر بیٹھیں کہ اے مولیٰ! میں بھی تیرے نیکوں کی بستی کی طرف آج چل کر آیا بیٹھا ہوں میں بھی تیری رحمت کا طلب گار ہوں جب یوں دل میں خاضری لیکر بیٹھیں گے پھر دیکھئے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لئے کتنی آسانیاں ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو کتنا جلدی معاف فرمادیں گے۔

### دعاء قبولیت کے یقین کے ساتھ ہو

بہر حال ایک چیز اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم اگرچے دل سے اللہ رب العزت کے سامنے آج دعا میں مانگے گے تو یقیناً ان دعاؤں کو قبول کر لیا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بہت غصہ آتا ہے جو وقوف عرفہ میں دعا مانگے اور پھر بعد میں یہ گمان رکھے کہ میری دعا میں قبول نہیں ہوئی اس بندے پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ کسی تھنی کے دروازے پر جاؤ اور بعد میں کہیں کہ جی ہمیں کچھ ملا ہی نہیں تو تھنی کو کتنا برا لگے گا ہم بھی خیوں کے پروردگار کے دربار پر آئے بیٹھے ہیں نہذایہ تو ذہن میں سوچو، ہی مت کہ ہماری دعا میں قبول نہیں ہو گئی اگر قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ آنے ہی نہ دیتے، آنے جو دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اب مانگنے میں ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت ہے کون اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگتا ہے اللہ

رب العزت مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراضی ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے لہذا آج کے اس وقوف میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا میں کیجئے لیکن جو مانگنے محبت کے ساتھ مانگنے ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے ایسے ہیں جیسے کسی کو کام بتایا جا رہا ہوتا ہے افراتے ہیں صبح دفتر میں تو اپنے ماتخواں کو آ کر کام ذمہ لگا رہا ہوتا ہے، تم یوں کر دینا، تم یہ کام کر دینا اس لمحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو نوکری مل جائے اور بیٹی کے بیہاں بیٹا بھی ہو جائے اور میری نواسی کامیاب ہو جائے اور فلاں ایسا ہو جائے، گویا ہم اللہ تعالیٰ کو بیٹھے ہوئے آرڈر دے رہے ہوتے ہیں اس طرح دعا میں قبول نہیں ہوتی دعا مانگنے کے لئے انسان کا پورا کا پورا بدن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، سراپا دعا بن جائے سر کے بالوں سے لیکر پاؤں کے ناخنوں تک وہ سراپا فریاد بن جائے ﴿أَمَّنْ يُجِبِ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ﴾ جب اس طرح مضطرب ہو کروہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول فرمائیتے ہیں تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اردو گرد کونہ دیکھیں کہ فلاں دیکھ رہا ہو گا، نہیں ہمیں اللہ سے مانگنا ہے دیکھئے پچھے جب روتا ہے اور امی امی پکارتا ہے بھی اس نے خیال کیا کہ میرا بڑا بھائی سن رہا ہو ہے میری بہن سن رہی ہے میری خالہ سن رہی ہے میرا دادا سن رہا ہے میری تانی سن رہی ہے جب پچھے رو رہا ہوتا ہے اور امی امی کہہ رہا ہوتا ہے اس کو کسی کی پرواہی نہیں ہوتی کہ کون میرے گرد ہے سن رہا ہے یا نہیں وہ تو امی کی محبت میں اسے پکار رہا ہوتا ہے بالکل اسی طرح آج ہم اس چھوٹے پچھے کی طرح جو امی امی کہہ کر اپنی ماں کو منا رہا ہوتا ہے ہم بھی اللہ اللہ کہہ کر اپنے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں اور اردو گرد سے ہم بالکل ہٹ کٹ جائیں کوئی پروانہ ہو ہماری آواز کہاں جا رہی ہے، کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، ہمیں آج اللہ نے موقع دے د

یا ہم زندگی کی اتنی اچھی گھریاں گذار رہے ہیں پھر اگر ہم ادھراً دھر دیکھنے میں لگ گئے تو ہم تو اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اس لئے جب دعماں نگے تو بس ہٹ کر کر دعماں نگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعماں نگے پھر دیکھنے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کیسے عطا فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتیں مانگنے والے بہت ہیں کوئی کہتا ہے اللہ مجھے اتنا مال دے دے تاکہ میں نیام کا ان بناالوں کوئی نوکری مانگتا ہے کوئی اپنے لئے زندگی کا اچھا ساتھی مانگتا ہے اس طرح دنیا کے عہدے اور عزتیں مانگتے ہیں یہ نعمتیں بھی مانگنی چاہئے مگر ایک نعمت ان سب نعمتوں سے بڑی ہے اور وہ کیا کہ ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ سے اللہ کو ما نگے اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کی محبت چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی محبت کی انتہا عطا کر دیجئے۔

تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں

میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں

اللہ کی محبت مانگنے یہ درد اگر مل گیا اور محبت مل گئی بس زندگی کے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے یہ مانگنے اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے یعنی آج کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں اللہ میری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیجئے ایسی ایسی دعا مانگنے پھر دیکھنے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوتی ہیں۔

## رب کے ساتھ تعلق کیسا ہو؟

آج کے مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے قانونی تعلق ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ جنوں تعلق ہو تھوڑا سا نکتہ سمجھ لیجئے گا کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی میں ایک دوسرے کے ساتھ طبیعتیں سیست نہیں ہوتیں بس وہ رشتہ دار ہی بھگت رہے ہوتے ہیں بچے ہو گئے زندگی گذارنی ہے مہینہ مہینہ ایک دوسرے کو پوچھتے ہی نہیں بس خاوند تشوہا لا کر دے دیتا ہے اور بیوی گھر کے کام کر دیتی ہے اور اس کے سارے معاملات سمیٹ دیتی ہیں باقی آپس میں ایک دوسرے سے ان

کی بات ہی نہیں ہوتی کئی مرتبہ بھی شادی بیاہ میں بھی جاتے ہیں آتے ہیں تو بس قانونی تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان وہ محبت اور الافت کا رشتہ کوئی نہیں رہتا بلکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تو یہ ہیں تو میاں بیوی مگر تعلق کیسا ہے؟ قانونی تعلق، اور کئی مرتبہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے جنونی تعلق ہوتا ہے ایسا کہ بیوی دو گھنٹے سے کھانا پا کر بیٹھی ہے میاں آئے گا تو مل کر کھانا کھائیں گے اور خاوند کا یہ حال کہ دفتر سے آرہا ہے تو روز ہی تخفہ خرید کر آرہا ہے آج اس کو اس چیز کا تخفہ، کل فلاں چیز کا تخفہ روز ہی نئے نئے تخفہ دیئے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اتنا وقت گذر لڑا ہے کہ انکا دل چاہتا ہے کہ بس کہیں ایسی جگہ، ہم چلے جاتے کہ جہاں آپس میں بیٹھ کر باشیں کرتے اور تیر کوئی ہمیں ڈسٹرپ کرنے والا ہی نہ ہوتا یہ تعلق کیسا کہلاتا ہے؟ یہ جنونی تعلق کہلاتا ہے یہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ملنے کے بات چیت کرنے کے وقت ساتھ گذارنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ جنونی تعلق پیدا کریں آج کے مسلمان کو اللہ سے قانونی تعلق رہ گیا ہے اس کی دلیل کیا ہم نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں بس ہم نے فرض واجب تو پڑھ لئے یہ سنت ہی ہے تا جب ہم نے یہ سوچا کہ یہ سنت ہی ہے کوئی فرض تو نہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ بس قانون ہی نبھاتے پھریں کہ اگر فرض ہے تو کریں گے واجب ہے تو کریں گے جب مومن نے یہ سوچنا شروع کر دیا فلاں چیز ضروری ہے فلاں چیز ضروری نہیں بس سمجھ لیں مومن کو اللہ تعالیٰ سے قانونی تعلق رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے جنونی تعلق نہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کیا تعلق چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایسا تعلق رکھو اتنا مجھے یاد کرو حتیٰ یقال انه مجنون کتم مجھے اتنا یاد کرو اتنا یاد کرو لوگ تمہیں دیکھیں تو وہ کہیں کہ یہ تو کوئی مجنون آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے جنونی تعلق چاہتے ہیں ایسے ثوٹ کر اللہ سے پیار کرے کہ اللہ کا نام سے تو ترپ اٹھے اسی لئے فرمایا

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ ایمان والے میرے بندے وہ ہیں ﴿الَّذِينَ إِذَا ذِكْرَ اللَّهِ﴾ کہ جن کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے ﴿وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ ان کے دل رُثپ اٹھتے ہیں ان کے دلوں کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے جہاں تعلق ہو اور چھپایا ہوا ہوتا ہے اگر بھی تذکرہ درمیان میں کردیں تو دنیا کے لوگوں کی بھی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اس کا تذکرہ سن کرتے یہ جنوں تعلق اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ ایسا جنوں تعلق ہونا چاہئے ایسی اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے، یقیناً اللہ رب العزت، ہمیں اپنی رحمت سے وہ عطا فرمادیں گے یہ محبت اگر مل جائے تو بس سمجھ لو کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیں نصیب ہو گئی۔

اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں آج ہم بھی حج کر رہے ہیں لیکن ہم نے تو کہیں اچھی کیفیت کے ساتھ دعا میں نہیں مانگیں، غفلت والے عمل کئے لیکن اللہ والے جو کرتے ہیں سبحان اللہ ان کی کیفیتیں ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔

## اللہ والے حج کیسے کرتے ہیں؟

حضرت شبلیؒ کا ایک مرید تھا وہ کچھ عرصہ غائب رہا جب ملاقات ہوئی تو پوچھا بھی کہاں گئے تھے؟

حضرت حج کرنے گیا تھا

فرمایا بھی اوھراؤ، کیسے حج کیا؟

کہنے لگا حضرت میں نے احرام پہنا تھا،

فرمایا اچھا جب تم نے احرام پہنا تھا اور لباس اتنا را تھا تو اس وقت گناہوں کا لباس اتنا نہ کی بھی تم نے نیت کی تھی؟

حضرت میں نے یہ نیت تو نہیں کی۔

اچھا جب تم نے احرام پہنا تھا تو تقوی کا لباس پہننے کی بھی نیت کی تھی؟

حضرت میں نے تو یہ نیت نہیں کی تھی۔

اچھا جب تم نے تبلیغ پڑھا تھا تو بلیک کہتے ہوئے اپنے دل و جان سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے بھی کیا تھا؟  
حضرت میں نے یہ نیت تو کوئی نہیں کی تھی۔

فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم گئے تھے طواف کرنے کے لئے تو پھر تمہیں حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے محبوب کے ہاتھوں کو یوسدہ دینے کی لذت بھی نصیب ہوئی تھی؟  
حضرت ایسی تو کوئی کیفیت نہیں ملی۔

فرمایا جب متز سے لپٹے تھے تو محبوب سے معافہ کرنے کی لذت بھی ملی تھی؟  
حضرت ایسی تو کوئی کیفیت نہیں ملی۔

فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا میں مانگی تو کیا تمہیں محبوب کے دامن کو پکڑ کے اپنی آرزو پیش کرنے کی کیفیت ملی تھی؟  
حضرت ایسی تو کوئی نہیں ملی۔

اچھا جب تم نے رمل کیا تھا تو کیا اس وقت تمہیں ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مَكَانٍ وَالِّيْ كیفیت  
ہو گئی تھی؟

حضرت ایسی کیفیت کو کوئی نہیں حاصل ہوئی تھی۔

فرمایا اچھا جب عرفات میں پہنچے تھے تو کیا تمہیں اللہ کی معرفت مل گئی تھی؟  
حضرت نہیں وہ تو نہیں ملی تھی۔

فرمایا اچھا جب تم مزدلفہ میں آئے تھے تو بتاؤ کہ وہاں پر تمہیں حقوق العباد کے بارے میں یہ کیفیت آگئی تھی کہ بھی میں نے واقعی سب کے ادا کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مجھے ان کی کوتاہی پر معافی مانگنی ہے؟  
حضرت یہ تو نہیں ہوا تھا۔

اچھا جب منی آئے تھے اور شیطان کو کنکریاں ماری تھیں تو کیا تم نے دل سے شیطان کے ساتھ پکی دشمنی کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا؟

حضرت ایسا تو کوئی نہیں کیا تھا۔

اچھا جب تم نے قربانی کی تھی تو قربانی کرتے ہوئے اپنے اندر کے نفس کو بھی اللہ کے سامنے قربان کرنے کی نیت کی تھی؟  
حضرت میں نے ایسی نیت تو کوئی نہیں کی۔

فرمایا جب تم طواف زیارت کے لئے آئے تھے تو کیا تمہیں محبوب کی زیارت اس کی تجلیات کا دیدار نصیب ہوا تھا؟  
اس نے کہا حضرت ایسا تو کچھ نصیب نہیں ہوا تھا۔

فرمانے لگے کہ اگر تمہیں اس میں سے کچھ بھی نصیب نہ ہو تو تم یوں سمجھو کر تم نے کوئی حج کیا ہی نہیں اب جاؤ اور جیسے میں نے تمہیں سمجھایا آئندہ ان کیفیتوں سے جا کر حج کر کے آنا۔

اب دیکھنے اللہ والوں کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں اور ہم عاجز مسکینوں کی کیا؟ اسلئے کام تو ہم نے کیا ہے لیکن اس کو ایسے نہیں کر سکے جیسے کرنا چاہئے تھا اسلئے ہم اس پر استغفار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت بھی مانگیں مدد بھی مانگیں میرے دوستوں اسی مجمع میں پڑھیں اللہ تعالیٰ سے کیسی کیسی محبت کرنے والے لوگ آج یہاں آئے ہوئے ہونگے۔

## مالک بن دینار کا واقعہ

مالک بن دینار قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے باہر نکلا گرمی کا موسم دوپہر کا وقت توجہ فرمائیے میں اپنی بات کو اب سمیٹنا چاہتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا دوپہر کا وقت تھا اور اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی ایسا لگتا تھا کہ آگ برس رہی ہے جو چوپائے تھے وہ بھی سائے میں جا کر بیٹھ گئے پرندے بھی درختوں کے پتوں کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے باہر ہو کا عالم طاری تھا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آتا تھا کہتے ہیں مجھے کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلا پڑا میں گلی

میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان ہے لیکن دونوں ٹانگوں سے معدور ہے اور وہ اپنے ہاتھوں اور سرین کے بل گھستا گھستا آرہا ہے جب میرے قریب آیا میں نے سلام کیا میں نے اس کو دیکھا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ اسرخ ہو چکا تھا جیسے جھلس ہی گیا ہوا اور اس کے کپڑے پسینہ میں تر ہو چکے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہواں نے بتایا میں فلاں ہوں اور فلاں جگہ سے چلا ہوں اور حج کے سفر پر جا رہا ہوں میں نے اسے مشورہ دیا کہ نوجوان تم میرے گھر میں تھوڑی دری آرام کرو شام کو جب گرمی کم ہو جائے گی تو پھر آگے کا سفر کر لیتا اس نے جواب دیا کہ مالک ابن دینار آپ تو دونوں پاؤں کے ذریعہ بڑے آرام سے چلتے پھرتے ہیں تیز سفر کر سکتے ہیں میں تو گھٹ گھٹ کر آگے بڑھتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے راستہ میں رکنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں حج کا موسم شروع ہو جائے اور میرے راستے ہی طے نہ ہواں لئے میں درمیان میں کہیں نہیں رکوں گا کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا کہ نوجوان تو میرے پاس دو پھر کو آرام کر لے میں تیرے لئے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں سواری پر سوار ہو کر جلدی چلے جانا کہنے لگا جب میں نے یہ بات کی تو اس نے غصہ سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ مالک ابن دینار میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں یہ کیسی بات آپنے کی میں نے کہا کیوں بھی کہنے لگا کہ بتائیں اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر چاہے کہ میں اپنے آقا کو منانے کے لئے جاؤں یہ بتاؤ کہ اس کو گھوڑوں پر سوار ہو کر جانا اچھا لگتا ہے یا گھٹ گھٹ کر جانا اچھا لگتا ہے کہنے لگے میں حیران ہو گیا اس نوجوان نے کیسی بات کی اور یہ بات کر کے وہ تو چلا ہی گیا کہنے لگے میں بات ہی بھول گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج کے لئے قبول کر لیا کہتے ہیں کہ جب میں عرفات سے مزادgne پہنچا پھر منی آیا تو میر نے آکر شیطان کو کنکریاں ماریں جب کنکریاں مار کر ہٹا تو میں نے

دیکھا کہ لوگ جمع ہیں ایک جگہ پر میں نے پوچھا بھی کیا ہوا کہنے لگے ایک نوجوان ہے اور اللہ سے اپنی دعا میں مانگ رہا ہے ایسی محبت بھری کہ ہم سن کر حیران ہو گئے میں نے کہا مجھے بھی دیکھنے و تھوڑا سارا ستہ دیدو کہنے لگے تھوڑا سارا ستہ ملاجب میں نے دیکھا تو وہی نوجوان مجھے نظر آیا احرام اس نے پہنا ہوا تھا لگتا تھا کہ سنکریاں مار کر ابھی فارغ ہوا ہے اور بیٹھا ہوا وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ لوگ تو اپنے پاؤں سے چل کر تیرے گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں میں وہ گھنے گاہر بندہ ہوں اللہ میں گھست گھست کرتیرے گھر کی طرف پہنچا میں نے تیرے گھر کا طوف بھی کیا مقام عرفات میں بھی پہنچا مزدلفہ میں بھی پہنچا اے اللہ شیطان کو سنکریاں مار کر میں نے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیا اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ تو جائیں گے استعداد والے ہیں استطاعت والے ہیں یہ جا کر جانوروں کو قربان کریں گے اور تو جانتا ہے میں فقیر ہوں میرے پاس تو میرے اس احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ میں اس موقع پر اپنی جان کا نذر ادا نہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں اللہ میری جان قبول کر لیجئے اس نوجوان نے یہ بات کہی، کلمہ پڑھا اور اس کی روح وہیں پر پرواز کر گئی

ایسے ایسے اللہ کے چاہئے والے اس مجمع میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کسی رحمت کی نظر اس مجمع پر ہوتی ہے میرے دوستوں ہمیں چاہئے کہ ہم بھی یہاں کی حاضری کا فائدہ اٹھائیں یقیناً ہم آئے ہیں مگر ہمارے وہ اعمال نہیں جو ہونے چاہیں تھے ہمیں اللہ تعالیٰ سے آج معافی مانگتی ہے اور اپنے رب کہنا تا ہے اپنے رب کہنا کراہنا ہے یہ دل میں عہد کر لیجئے ہم نے آج اپنے رب کہنا کے اٹھنا ہے ہمہ والے نے تو عجیب بات کی

نہ شود نصیب دُمُن کہ شود بِلَّا ک تیغت  
سر دوستاں سلامت ک تو خیر آزمائی  
ز میں چوں سجدہ کر دم ز ز میں ندا برآمد  
کہ مر اخواب کر دی تو بہ سجدہ ریائی

کہ جب میں نے زمین پر سجدہ کیا زمین سے آواز آئی اور یا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کرڈا لائی نمازیں ہم لیکر آئے ہیں آگے کہتے ہیں  
بڑے طواف کے بعد فتح بحر حرم نادا دند

کہ میں کعبہ کے طواف کے لئے گیا مگر مجھے انہوں نے اپنے گھر کے اندر کا راستہ نہ دیا کیوں فرمانے لگے

بروں چڑ کار کر دی کہ درون خانہ آئی  
باہر کیا کرتے پھرے ہواب تم میرے گھر میں داخلے کی اجازت مانگتے پھرتے

ہو

## تو بہ کی ضرورت

ہم سوچیں ہم اپنے گھروں میں کیسی زندگی گذار کریں ہاں آئے ہیں اور ہم تو قعات رکھتے ہیں اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ تجلیات ملیں گی ہاں ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ اب تک کی زندگی پر ہم افسوس کریں استغفار کریں سچی توبہ کر کے اپنے رب سے آج صلح کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پکا عہد کریں اللہ آئندہ پوری زندگی حکموں کے مطابق گذارنے کی کوشش کریں گے ہم پر ہماری فرمائیے گا اور ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی اچھا بنا دیجئے اور ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دیجئے ہمارے عمل کو قبول کر لیجئے میرے مالک ہمارے پلے تو ایسا کچھ نہیں کہ جو ہم پیش کر سکیں لیکن آخر آپ کے مقبول بندوں کا یہ مجمع ہے اللہ ان کی برکت سے ہمارے بھی اس حج کے عمل کو قبول کر لیجئے اللہ رب العزت یقیناً ہم پر ہماری فرمائیں گے مانگنے والے اپنے حساب سے مانگتے ہیں مگر دینے والا تو اپنے حساب سے دیا کرتا ہے۔

## ایک واقعہ

ہم نے کتابوں میں واقعہ پڑھا کہ حاتم طائی ایک امیر، تنی آدمی گذر رہے اس

سے ایک مرتبہ کسی فقیر نے پانچ دینار مانگے تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس کو پانچ سودینار لا کر دید و نوکر بڑا جیران ہوا کہنے لگا کہ جی پانچ دینار مانگے تھے آپ نے پانچ سودینے کا حکم دیدیا، حاتم طائی نے کہا تھا وہ مانگنے والے کا ظرف تھا اور یہ دینے والے کا ظرف ہے، اگر دنیا کا تھی پانچ مانگنے والے کو پانچ سودیدیا کرتا ہے تو وہ توبہ کا کریم آقا ہے آج ہم جتنا مانگے گیں یقیناً ہمارے اندر کی ترب کو دیکھتے ہوئے وہ پروردگار پھر اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، ہم سے کوئی مانگے ممکن ہے ہم ایک ریال دے سکتے ہوں امیر بندے سے مانگے وہ سوریاں دے سکتا ہو کسی وزیر سے مانگے وہ ایک ہزار ریال دیدے گا کسی بادشاہ وقت سے مانگے وہ لاکھوں میں اس کو عطا کر دے گا، ہر دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے ہم جو بھی مانگے گیں اس پروردگار نے پھر اپنی عظمتوں کے مطابق عطا کرنا ہے لہذا ہم دامن پھیلادیں میرے مولی سائل ہیں تیرے در کے منگتے ہیں دامن پھیلائے بیٹھے ہیں یقیناً محتاج ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کر دیجئے ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا کہ ہم صحیح طرح سے مانگ سکیں مگر آپ تو خاموشی کی زبان بھی جانتے ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمادیجئے، جو ہماری تمنا میں ہیں ہیں اللہ ان کو پورا فرمادیجئے پھر دیکھنے اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی رحمتیں ہونگی۔

### حاجی کیلئے خوشخبری

میرے دوستو! حسرت اس بندہ پر نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں جائے حسرت تو اس پر ہے جو ایسی جگہ پر حاضر ہوا اور پھر پچی تو بہ کئے بغیر واپس چلا جائے ارے کہاں کہاں اللہ نے تجھے پہنچایا تھا مگر تو نے وقت کو کیشنا کروایا پچی معافی نہ مانگی اندر سے گناہوں سے پچی تو بہ نہ کی اپنے رب کے سامنے سر کونہ جھکایا تو اسے اپنی خطاؤں سے پچی معافی نہ مانگی اسلئے ہمیں چاہئے آج ہم اپنے رب سے پچی معافی مانگ کر اپنے رب سے یہ عہد کریں اللہ ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف

فرماد تبھے اور آئندہ ہمیں نیکو کاری اور پرہیز گاری کی زندگی نصیب فرماد تبھے اب ایک آخری بات جو بڑی توجہ کے ساتھ سن لیجئے اگر معاملہ ہمارے اوپر ہوتا کہ حاجی آئے اور یہاں آ کر خود مانگے تو ہمارے لئے تو کام مشکل ہو جاتا ہماری زبانیں کالی، جھوٹی زبانیں، کالی نگاہیں، میلے دل پتھر کی مانند ہیں ہم یہاں آ کر مانگ بھی نہ سکتے تھے مگر ہماری نسبت ایک تعلق رحمۃ اللعالمین کے ساتھ ہے اس نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ہے جو نبی رحمت تھے چنانچہ انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے امتوں کے لئے بھی راستہ آسان کر دیا حدیث پاک میں آتا ہے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے آپ نے دعا مانگی کیا پیاری دعا مانگی، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرماء اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرماء سچان اللہ محجوب رحمۃ اللعالمین کی نسبت کام آگئی، ہم گنہ گاری صحیح خطا کا رنج لیکن محجوب کی دعاوں کی نسبت ہے، مہر ہے لہذا آج ہم جس کی بھی مغفرت کی دعا کریں گے اس محجوب کی دعاوں کے صدقے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائیں گے اور جن کی مغفرت کی ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے میرے مالک آپ نے تو ہمارے بخت جگوادئے آپ نے تو ہمیں نصیب دار بنادیا ہم جیسے گنہگار اس جگہ پر پہنچ جس پر آپ کے محجوب کی دعاوں کا سایہ ہے کہ محجوب نے دعا مانگی اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرماء اور جس کی مغفرت کی بھی حاجی دعا کرے اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرماء اللہ آج ہم جس کی بھی مغفرت کی دعا مانگیں کریں گے پکا یقین رکھتے ہیں اللہ رب العزت یقیناً ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں گے اور ہمارے اس حج کے عمل کو قبول کریں گے اور اس میں جو کی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے ہمیں حج مبررو کے ساتھ یہاں سے واپس لوٹا میں گے اور قیامت کے دن کی ذلت سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔

## یاد رکھنے کی بات

میرے دوستو! یاد رکھنے دو بندوں کے سامنے کی ذلت ہم سے برداشت نہیں ہوتی قیامت کے دن کی ذلت ہم سے کیسے برداشت ہوگی جب کہ وہاں پر اللہ کے محبوب بھی ہونگے نیکوں کا مجمع ہو گا کتنے لوگ موجود ہونگے لہذا آج ہی ہم اپنے سب گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پچی تو بُر کے اپنے رب کو آج منالیں اور اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کرو اکر آئندہ ایک نیکوکاری پر ہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیں میرے اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائیں اور ہمیں آئندہ نیکوکاری پر ہیزگاری کی زندگی نصیب فرمادے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

جو یادِ مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے  
 حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے  
 زبان پر شکوہ رنج و الام لا یا نہیں کرتے  
 نبی کے نام لیواغم سے سُبھرا یا نہیں کرتے  
 یہ دربارِ محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے  
 ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے  
 یہ دربارِ محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا  
 یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے  
 محمد عرش پر پہنچ تو خود خالق نے فرمایا  
 یا پنا گھر ہے اپنے گھر میں شرما یا نہیں کرتے  
 گنگہ کاروں کو ہم بخشنے کیس قسم سے وعدہ کرتے ہیں  
 محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے

﴿وَلِكُلِّ ذَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا﴾

# حج مقبول بنانے کی سعی

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

# فہرست عنوانوں

شمار	عن	اوین	صفحہ
۱	اج بقدر مشقت		۱۸۲
۲	شیطان کی کوشش		۱۸۳
۳	چند آسان اعمال		۱۸۳
۴	استغفار		۱۸۳
۵	استغفار کی برکت		۱۸۵
۶	ہربندے کی تنا		۱۸۶
۷	صبر		۱۸۸
۸	صبر کی تعریف		۱۸۹
۹	شکر ادا کرنے کے دو طریقے		۱۹۰
۱۰	نعت ملے پر اللہ کا خوف		۱۹۰
۱۱	نکتہ کی بات		۱۹۳
۱۲	عبرت بھرا واقع		۱۹۳

اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

## اقتباس

﴿از افادات ﷺ﴾

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿مَا يَفْعُلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ  
 تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اپنی زبان میں سمجھنے کے  
 لئے اس کا مفہوم کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں عذاب  
 دے کے اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ﴿إِنَّ شَكْرَتُمْ وَأَمْتُمْ  
 وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا﴾ اگر تم ایمان لا اور شکر ادا کرو تو  
 تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا، تو معلوم ہوا کہ شکر پر  
 بھی اللہ تعالیٰ عذاب اسی طرح ٹالتے ہیں جس طرح استغفار پر  
 بندے کے اوپر سے عذاب کوٹال دیتے ہیں۔

حضرت مولانا تاپیر  
 حافظ ذوالفقار احمد صاحب

نقشبندی مجددی زید مجدد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى إِمَّا بَعْدًا  
أَغْوَدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
﴿وَلِكُلِّ ذَرَجَةٍ مَّمَاعِلُواهُ﴾

سُبْخَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

### اجر بقدر مشقت

اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق  
عطافرمائی، ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس سفر کو لتنا قیمتی بنا پاتے ہیں، جتنی محنت  
کوشش کریں گے جتنا زیادہ مجاہدہ کریں گے اتنا زیادہ یہ سفر قیمتی ہوگا، نبی کریم  
علیہ السلام نے ماں عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ اے عائشؓ! حج میں تیرا اجر تیری مشقت  
امتحانے کے بقدر ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان جتنا زیادہ محنت کرے، مجاہدہ کرے  
اتنا ہی زیادہ اس کا حج کا سفر زیادہ قیمتی ہوگا،

ایک شن سونا بھی ایک شن ہوتا ہے،

چاندی بھی ایک شن ہوتی ہے،

پیتل بھی ایک شن ہوتا ہے،

لوہا بھی اور مٹی بھی، لیکن ایک شن سونے کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، لوہے کی اور  
ہوتی پیتل کی اور ہوتی ہے مٹی کی اور ہوتی ہے۔

ہمارا حج بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے حج پر سونے کا ریث لگا دینے گے، کسی  
پچاندی کا، کسی پلو ہے کا، اور کسی کومٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔

ہمیں تیرے ایسے حج کی ضرورت ہی نہیں، تو اس بارے میں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔

## شیطان کی کوشش

شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حج پہ آنے والے بندے کو ایسی باتوں میں الجھائے کہ وہ اپنے پانے والے اجر کو ضائع کر جائے، کسی سے تکرار ہو گئی، خواہ مخواہ کی بحث ہو گئی، اعتراض کر دیا، غیبت کر دی، تو ایسے تمام کاموں سے بچتا اور نیکی کے کاموں میں لگنا، اس کو اپنے حج کو قیمتی بنانا کہتے ہیں۔

## چند آسان اعمال

تاہم پانچ اعمال آج کی اس محفل میں ایسے بتائے جاتے ہیں جو کرنے بھی آسان ہے اور ان کے کرنے سے اتنا اجر ملتا ہے کہ فرشتے نیکیوں کو لکھ کر تھک جاتے ہیں اکثر عورتیں یہ سوال کرتی ہیں بعض دوست بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے عمرہ تو کر لیا اب ہم فارغ ہیں، ہم کیا کریں؟، ہمیں کچھ کرنے کو بتائیں، تو آج کی اس محفل میں اسی سوال کا جواب دیا جائے گا۔

## استغفار

(۱) سب سے پہلے تو ہم استغفار کی کثرت کریں،

استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ، چنانچہ اپنی کوتاہیوں، سُقیٰ اور غفلتوں پر نادم ہو کر معافی چاہنا اس کو استغفار کہتے ہیں۔

حسنؓ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت بہت گنہگار ہوں کچھ حل بتائیں، گناہ معاف ہو جائیں، فرمایا استغفار کثرت سے کرو،

ایک آدمی آیا کہ حضرت بارش نہیں بری، کوئی عمل بتائیں بارش برس پڑے فرمایا کہ استغفار کرو،

ایک شخص آیا کہ برا غریب ہوں، کوئی عمل بتائیں، فرمایا کہ استغفار کرو،

ایک شخص آیا کہ اولاد کی خواہش ہے کچھ عمل بتائیں فرمایا کہ استغفار کرو،  
 ایک شخص آیا کہ باغ ہے دعا کرو پھل اچھا لگے، فرمایا کہ استغفار کرو،  
 ایک شخص نے کہا کہ بیٹھے پانی کی تلاش دعا کرو میری زمین سے پانی نکل آئے  
 فرمایا استغفار کرو،

اب ایک آدمی جس نے یہ تمام باتیں سنیں اس نے کہا کہ حضرت یہ عجیب نہ  
 آپ کے ہاتھ میں آیا کہ ہر آنے والے کی خواہش تو مختلف تھی مگر آپ نے عمل ایک  
 ہی بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کیں کیس اللہ  
 رب العزت کی کتاب میں موجود ہے چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی،  
 ﴿إِنْسَتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ﴾ تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾  
 وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ﴿يُؤْمِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَازًا﴾  
 تمہارے لئے آسمانوں سے بارش بر سامنے والا ہے ﴿وَيُنَمِّدُكُمْ بِأَمْوَالٍ﴾ وہ  
 مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے ﴿وَبَيْنِنَ﴾ اور بیٹوں کے ذریعے سے  
 تمہاری مدد کرے گا ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ﴾ اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ باغوں  
 کے پھل بڑھائے گا۔ ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ اور تمہارے لئے پانی کے  
 چشمے جاری فرمادے گا۔

تو قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ تمام نعمتیں استغفار والے عمل پر مبنی کی  
 بشارت موجود ہے،

آج اکثر لوگ جو عملیات کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں دیکھیں تو انکی پریشانیاں  
 انہیں چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں، تو اگر ہم استغفار کی کثرت کریں تو ہمیں کسی کے  
 پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی کار و بار کے لئے پریشان، کوئی اولاد کے لئے  
 پریشان، کوئی صحت کے لئے پریشان، یہی ہیں ناہماری پریشانیاں، وہ تمام پریشانیاں  
 استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم فرماتے ہیں، تو جتنی جوتیاں گھساتے ہیں ادھر  
 ادھر بھاگنے میں اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ اپنے رب کے سامنے توجہ کے ساتھ بیٹھے

کر حضور قلب کے ساتھ دل کی توجہ کے ساتھ استغفار کریں، اور یہ استغفار ہر بندے کے لئے کرنا ضروری، کوئی یہ سمجھے کہ میں تواب نیک ہوں، مجھے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی کافر ہے تو اس کو چاہئے کہ کفر سے توبہ کرے نادم ہو، اگر کوئی مسلمان ہے معصیت کی زندگی گذارتا ہے تو وہ اپنی معصیت سے توبہ کر کے نادم ہو، اور اگر کوئی معصیت کا مرتكب نہیں ہوتا لیکن ویے غالباً زندگی گذارتا ہے ہر وقت اسے اللہ یا انہیں آتا تو وہ اپنی غفلت سے نادم ہو استغفار کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی میں تو غالباً بھی نہیں رہتا تو بھی اسکو وساوس شیطانی تو آتے ہی ہونگے اس سے تو کوئی بچا ہوانہیں ہوتا تو وساوس شیطانی کے آنے پر استغفار کرے، اور جو کہے کہ مجھے وساوس بھی نہیں آتے وہ اپنے اعمال میں اخلاص کی کمی پر استغفار کرے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میرے عمل اخلاص پیدا ہو گیا اب مجھے اسکی ضرورت نہیں ہے غرض کہ استغفار ہر حال میں کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ انسان کسی بھی درجے پر ہو، کتنا ہی نیک مقیٰ پر ہیزگار کیوں نہ بن جائے، استغفار تو اس کو کرنا ہی ہے۔ تو جب استغفار کرنا ہے تو کیوں نہ دل کی توجہ کے ساتھ استغفار کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفرالله ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھتے رہئے، اور جن کے لئے یہ پورا پڑھنا مشکل ہے وہ استغفرالله استغفرالله ہی پڑھتے رہیں، تو ان کو اس کا اجر مل جائے گا اب یہ کتنا آسان سلفظ ہے، ہاں یہ نہ ہو کہ انسان زبان سے تو استغفرالله کہتا پھرے اور آنکھ ادھر ادھر دیکھ رہی ہو اور کان کچھ سن رہے ہوں، استغفار میں دل حاضر ہو یہ ضروری چیز ہے،

### استغفار کی برکت

یہ استغفار وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان مصیبتوں سے بچتا ہے، ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہو گا

کہ جو کہے کہ مجھے عذاب کی پروانیں جو کہے گا وہ تو شاید ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا۔

## ہر بندے کی تمبا

ہر بندہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی تمبا رکھتا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب ﷺ! ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنَّتَ فِيهِمْ﴾ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں ﴿لَهُو مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ اور اس وقت تک بھی اللہ ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے، گویا نبی کریم ﷺ کے وجود مسعود کی برکتیں تھیں کہ عذاب مل گیا تھا اس استغفار سے وہی برکتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، اسلئے نبی کریم ﷺ کے زمانے میں کفار بڑھ بڑھ کے بولتے تھے کہ آتا ہے عذاب تو آئے مگر عذاب نہ آیا اس پر حضرت مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر میں بہت ہی پیاری تفسیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کافر دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو، کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے عذاب آتا ہے تو آئے، لیکن ایسا عذاب عمومی ان پر نہ آیا، کیا وجہ تھی؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب ﷺ ان میں موجود تھے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب نبی ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے تو پھر مکہ مکرمہ میں نبی ﷺ نہیں تھے پھر اہل مکہ پر عذاب آ جاتا، تو انہوں نے فرمایا کہ عذاب اس لئے نہ آیا کہ ان میں کچھ ایمان والے رہ گئے تھے جو چھپے ہوئے تھے اظہار نہیں کیا تھا اور وہ استغفار کرتے تھے ان ایمان والوں کے استغفار کی وجہ سے کافروں پر عذاب ٹلا رہا، پھر سوال ہوتا ہے کہ جی ایک وقت تو ایسا آیا کہ جس میں ایمان والے سارے ہی ہجرت کر کے چلے گئے تھے شاید ہی کوئی پچھے بچا ہو، سب چلے گئے تھے ہجرت کر کے، اسک وقت عذاب کیوں نہ آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ

اس وقت عذاب اس لئے نہ آیا کہ مشرکین جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو طواف کرنے کے دوران غفرانک یہ لفظ پڑھا کرتے تھے یہ استغفار کا لفظ ہے تو اس لفظ کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو عذاب سے بچالیا تھا، تو جب اتنا پرستا شیر یہ لفظ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب کوٹال دیتا ہے تو بھائی ہمیں تو بہت ہی زیادہ استغفار کرنا چاہیے، کیوں ہم شکوہ کرتے پھر تے ہیں جی کہ اللہ نار ارض ہے یہ میرا کام ایسے ہو گیا، فلاں کام ایسے ہوا، بھائی اصل میں ہم استغفار صحیح انداز سے کرتے ہی نہیں، اگر ہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی نارِ ضمی سے بھی نجع جائیں اور اسکے عذاب سے بھی ہم نجع جائیں، تو ایک کام ان پانچ کاموں میں سے کونسا ہوا، استغفار کثرت کے ساتھ کرنا، اس کا حکم دیا گیا ہے قران مجید نہیں ﴿إِسْتَغْفِرُواۤ۝﴾ امر کا صیغہ ہے، حکم مل رہا ہے۔ اللہ اور ذرا غور کیجیے کہ نبی ﷺ کی زندگی معصوم زندگی پا کیزہ زندگی ایسی کامل زندگی کہ نبی ﷺ نے جنتۃ الوداع کے موقع پر صحابہؓ سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنا فرض پورا کر لیا، ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہؓ نے تصدیق کی کہ ہاں [ادیت الامانة و نصحت الامة] کہ آپ نے امت کو نصیحت کر دی اور امانت کو ان تک پہنچا دیا، تو نبی ﷺ نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا اللهم اشهد کہ میرے اللہ اس بات پر گواہ رہنا ایسی کامل مکمل زندگی کہ جس مقصد کے لئے تشریف لائے اسکو پورا کر دیا اور ایسی زندگی کے بعد جب واپس لوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ اللہ ایسی معصوم زندگی گذارنے کے بعد پھر بھی اللہ کا حکم آرہا ہے کہ آپ استغفار کیجیے، تو میں اور آپ کس کھیت کی گا جرمولی ہیں، کیا اوقات ہے ہماری، ہمیں تو بہت ہی زیادہ استغفار کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے، تو پہلا کام استغفار کی کثرت۔

## صبر

اور دوسرا عمل صبر کرنا، دیکھیں اس دنیا کو امتحان گاہ کہا گیا، الدنیا دار المحن دنیا امتحان گاہ ہے، ایک ہوتا ہے کسی بچے کا امتحان دینا، وہ بھی امتحان گاہ میں جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کو ایک پرچہ دیا جاتا جس پر question (سوالات) لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا جواب وہ Answer sheet (جوابی پرچہ) پر pen paper کے ذریعے دیتا ہے لکھتا ہے، اور پھر استاذ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ پاس ہے یا فیل، ایک امتحان کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ Oral test ہوتے ہیں اس میں استاذ اپنے شاگرد سے کچھ question پوچھتا ہے، Interview کی شکل میں بچہ جواب دیتا ہے، یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے۔ ایک امتحان وہ ہے جس میں سے ہم گذر رہے ہیں، اس کا انداز اور طریقہ کار ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ طریقہ کار یہ ہیکہ اللہ رب العزت ہر بندے پر حالات بھیجتے ہیں خوشی کے، غمی کے، بیماری کے، کسی کوئی کام موقع دے کر آزماتے ہیں، کسی کو گناہ کا چانس دے کے آزماتے ہیں، اب جو یہ آنے والے حالات ہے نا، یہ question paper ہوتے ہیں، اس کے جواب میں جیسے ہم behave بی ہیو کرتے ہیں وہ اس کا جواب ہوتا ہے، ذرا سی کوئی ناپسندیدہ چیز آگئی اگر ہم اس پر صبر کر لیا تو ہم کامیاب، اور اگر retaliate کر کے زبان سے کوئی ناشکری کے لفظ بول دیے تو ہم اس میں فیل،

اگر اللہ نے گناہ کا موقع کسی کے سامنے کھولا اگر وہ اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور رُک گیا باوجود موقعہ ہونے کے قال معاذ اللہ عاص نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو کامیاب، اور اگر جذبات کی رو میں بہہ گیا تو یہ ناکام۔

تو کسی کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ لے کے آزماتے ہے، یہ دونوں طرح کی آزمائش ہے۔ اگر ذرا سی بات پر ہم بے صبری کا مظاہرہ

کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم نے جواب غلط لکھا۔

## صبر کی تعریف

صبر کہتے ہیں ر عمل میں تحمل کر لینا، اپنے آپ کو روک لینا، فوری ر عمل ظاہر نہ کرنا، بلکہ سوچ کے سمجھ کے شریعت کے مطابق آگے عمل کرنا اس کو صبر کہتے ہیں۔ آج کیا حال ہے ہمارا ذرا سی بات پر اتنا React کرتے ہیں ہم بس چند لمحے میں رشتہ ناطے توڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں بے صبری بہت ہے، حرص تو بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیں، یہ بھی دیں، چاہتے ہیں کہ ساری زندگی کا رزق ابھی ہمیں مل جائے، اور جو موقع کا عمل نماز ہوتی ہے وہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، تو ناگوار حالات پر صبر کرنا، خوشگوار حالات پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ دو کام ایسے ہیں جو بندے کے نامہ اعمال کو پہاڑوں جیسی نیکیوں سے بھر دیا کرتے ہیں۔

آپ کہیں گے کہ میں تو بہت شکر ادا کرتا ہوں، نہیں آپ غور کریں ہمیں جتنا شکر ادا کرنا چاہئے ہم نہیں کر پاتے، اب ذرا غور سے سننا، ہر پسندیدہ عمل پر اللہ کا شکر ادا کرنا، ذرا غور سچیہ صحیح کے وقت نماز سے پہلے آپ کی آنکھ کھل گئی، یہ اللہ کی ایک نعمت تھی کیا اس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اپنے وقت پر فجر کی نماز پڑھ لی کیا اس پر شکر ادا کیا؟ ہمارے اہل خانہ نے وقت پر فجر کی نماز پڑھی اس پر شکر ادا کیا؟ ہمیں وقت پر تیار ناشریل گیا، ہم نے جو کھانا تھا وہ ہمارے پیٹ میں جا کر صحیح طرح ہضم ہو گیا کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس پر کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ وقت پر دکان وفتر پہنچ گئے اس پر شکر ادا کیا؟ بیوی نے کوئی پر ابلم نہیں کیا، صحیح انداز سے اپنادن گذارا، بچے نے گستاخی نہیں کی، اس پر کبھی شکر ادا کیا؟ بچہ اسکوں میں اچھا پڑھ کے آگیا، انکار نہیں کیا اسکوں جانے سے مدرسہ جانے سے، شکر ادا کیا؟ والدین خوش دن انہوں نے ہم سے گذار لیا، اس پر شکر ادا کیا؟ کوئی بیماری دن میں محسوس نہیں

ہوئی شکر ادا کیا؟ آپ غور کریں کتنی اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جو روز ملتی ہیں، اور اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں نہیں یہ بھی ذہن میں نہیں آتا کہ اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہئے، ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی کام انسان کی اپنی مرضی مٹا کے مطابق ہوتا چلا جائے الحمد للہ کہتے جائیں، یہ الحمد للہ کے لفظ کہنے سے انسان اللہ کے شکر گذار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اب یہ کتنا مختصر سالفظ ہے، چھوٹا سا لفظ لیکن ہماری زبانوں پر یہ ایسے (عام طور) Commonly نہیں استعمال ہوتا جیسے ہونا چاہیے، اچھا آپ کو پینے کے لئے شہنشاہ اپنی مل گیا، گرم روٹی ملی، لذیذ کھانا ملا، دوسرا بندہ آپ سے ملا اس نے آپ کو تعریفی کلمات کہہ دیئے کیا آپ نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، تو زندگی میں اتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر بر سر ہی ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے، علماء نے لکھا ہے ۳۶۰ یا ۳۶۵ جوڑ ہیں جسم کے، تو سلامت رہے کہی درد نہیں ہوا، شکر ادا کیا؟ ہم جو پڑھتے ہیں یاد ہو جاتا ہے بھولتے نہیں، اس پر شکر ادا کیا؟ تو اگر ہم غور کریں تو لمحہ لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لئے فرمایا گیا و ان تعدوا نعمة الله لا تتصوّهها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتا چاہو تو ان نعمتوں گن بھی نہیں سکتے، ان گنت نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اللہ کی ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان الحمد للہ کہے۔

### شکر ادا کرنے کے دو طریقے

(۱) ایک زبان سے ادا کرنا (۲) ..... دوسرے عمل سے ادا کرنا۔

تو زبان سے ادا کرنے کے لئے تو الحمد للہ ہے، جس نے الحمد للہ کہہ دیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ شکر ادا کرنے والے بندے پر میری نعمتیں اور زیادہ ہونگی۔ ﴿لَئِنْ شَكَرُتُمْ لَا زِيَّدَنَّكُمْ﴾ اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتیں اور زیادہ عطا کی جائیں گی۔

**نعمت ملنے پر اللہ کا خوف**

ایک بزرگ تھے اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں ان پر تو وہ بڑے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے سب عملوں کا اجر مجھے دنیا میں مل رہا ہو، مجھے تو آخرت میں چاہئے تو وہ گھبراتے تھے، جیسے حضرت عمرؓ کے پینے کے لئے پانی مانگا، تو کسی نے شربت پیش کر دیا تو شربت پینے لگے تو آنکھوں میں سے آنسو آگئے، کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین کیا ہوا؟ فرمائے گے پانی مانگا تھا جواب میں شربت ملا، تو دل میں خیال آیا کہ کہیں عمرؓ کے عملوں کا سارا اثواب دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا؟ آخرت میں یہ نہ کہہ دیا جائے ﴿اَذْهَبُتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ ڈرتے تھے ہمارے اکابر، ہم تو اور اور کی طلب میں رہتے ہیں، ان کو جب ملتی تھی تو کہتے تھے کہ بس دنیا میں اتنی ہی کافی ہیں اللہ باقی آخرت میں چاہئیں اب یہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ ان پر خوب اللہ کی نعمتوں کی بوچھار تھی تو یہ بس کرتے تھے، کہتے تھے اللہ بس، اور نہیں چاہئے اور نہیں چاہئے، اور نعمتیں تھیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھیں تو ایک دن دعا مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ! جب میں بس کر رہا ہوں کہ مجھے اور نہیں چاہئے آپ اور کیوں دے رہے ہے؟ ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا، توجہ انہوں نے یہ کہا تو جواب میں ان کے دل میں بات القاء کی گئی، الہام کیا گیا کہ میرے پیارے زبان سے تو کہہ رہے ہو بس بس کرو، لیکن تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو اور جب تک تم شکر ادا کرنا بند نہیں کرو گے میں نعمتیں عطا کرنا بند نہیں کروں گا، ہمارا دستور ہے جو شکر ادا کرے گا، نعمتیں اور زیادہ عطا کریں گے، تو بھی اتنی نعمتیں اس عمل پر ملتی ہے کہ بندہ بس کرتا رہ جاتا ہے، تو ناگوار باتوں پر صبر اور خوشگوار باتوں پر اللہ رب العزت کا شکر، شکر ادا کرنے کے لئے الحمد للہ، اور اگر صبر کریں گے تو صبر پر تو اتنا اجر ملتا ہے کہ ارشاد فرمایا ﴿إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا کریں گے، تو میں نے کہانے کے فرشتے لکھ کے تھک

جائیں گے۔

تو ایک عمل استغفار، دوسرا صبر۔

اب حج کے سفر میں کیا ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کھانے پہ جھگڑا گرم نہیں ملا، سیٹ پہ جھگڑا میں نے یہاں بیٹھنا تھا آپ کیوں بیٹھے گئے؟ معمولی باتوں پہ جھگڑا ایسے لگتا ہے کہ صبر نام کی تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، الجھتے ہی پھر تے ہیں۔

ہمارے اکابر کتنی مشقتیں اٹھا کر یہاں تشریف لاتے تھے، ہم کبھی غور کریں تو حیران رہ جائیں، آج تو گھر سے چلتے ہیں نا، تو پانچ گھنٹوں کے سفر کے بعد سعودی عرب میں طیارہ اتر جاتا ہے، اور ہمارے اکابر رمضان سے پہلے حج کا سفر شروع کرتے تھے، کراچی سے، سببی سے جو چہاز چلتے تھے بھری جہاڑہ رمضان سے پہلے چلتے تھے، رمضان المبارک ان کو سمندر میں آتا تھا، کتنی مہینے پہلے چلنا پڑتا تھا کیوں؟ کہ بھری جہاڑ جب چلتے تھے تو راستے میں سمندری طوفان آتے تھے، طوفان آیا جہاڑ لٹکر انداز، پندرہ دن، میں دن ایک ہی جگہ پہ کھڑے، اور جہاڑ بچکو لے کھا رہا ہے، اور ان کو اللیاں آرہی ہیں اور وہ وہاں پریشان ہیں، مہینوں کی مشقتوں کے بعد جدہ جب سی پورٹ پہ جب ہیو چھتے تھے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جدہ ہیو چھ کرتین دن تک ہمیں جہاڑ کے اندر رہنا پڑتا تھا، وہ لوگ صرف یہ دیکھتے تھے کہ ان کے اندر کوئی وباً مرض ہو تو تین دن میں پتہ چل جائے، اب آپ کوہیں کہ آپ جہاڑ میں تین گھنٹے بیٹھے رہیں تو ہماری حالت کیا ہو جائے، تین دن سمندری جہاڑ کے اندر رہتے تھے، فرماتے تھے ہم جدہ کو دیکھتے تھے مگر اس کی زمین پر ہمیں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ان کو کلیر کیا جاتا تھا اور پھر جدہ سے مکہ مکرمہ پہ چھتے میں مزید تین دن کا سفر ہوتا تھا، سڑک نہیں ہوتی تھی، پہاڑی پر چلنا، سامان کے ساتھ، پھر نیچے اترنا، پھر دوسری پہاڑی پہ چڑھنا پھر نیچے اترنا، اور راستے میں پانی بھی میسر نہیں تھا تو جدہ

سے ضرورت کا پانی بھی سرپہ اٹھا کے لاتے تھے، تین دن میں کتنی دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے، یہ سارا پانی بھی اٹھانا پڑتا تھا، کہنے لگے جو بہت امیر تھے وہ اونٹ کرائے پہ لے لیتے تھے اور سامان اونٹ پر لاد کر سوار ہو کر تین دن میں جدہ سے مکہ مکرمہ آ جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہم یہ کرتے تھے کہ اونٹ لے کر سامان رکھ دیتے تھے اور تین دن پیدل چل کر جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچا کرتے تھے، راستے میں کولڈ ڈرینک نہیں، کوئی ٹھنڈا پانی میٹھا مشروب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی، ایسا مشقتوں بھرا سفر ہوتا تھا، لیکن راستے پکے ہوتے تھے اور حاجی پکے ہوتے تھے اور آج راستے پکے بن گئے حاجی پکے ہو گئے۔

جہاز ایئر کنڈیشن، ایئر پورٹ ایئر کنڈیشن، بسیں ایئر کنڈیشن، رہائشیں ایئر کنڈیشن، حرم ایئر کنڈیشن باقی تو پھر سڑکیں ہی رہ گئیں اور پھر شکوے، سوچیں تو سہی اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں کر دیں ہمارے لئے، لیکن ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔

### نکتہ کی بات

ایک نکتہ میں یہاں پر کھولتا چلوں، میں بات کو لمبا کرتا جا رہا ہوں، مگر وہ نکتہ سمجھانا بھی ضروری ہے، جس بندے کا حج قبول ہو گا اس کو کسی نہ کسی انداز میں کوئی مشقت ضرور آئے گی، نکتہ ذرا سمجھئے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے، اس لئے بات کرنے کی جرأت کر رہا ہوں، جس کا حج قبول ہو گا کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی مشقت آئے گی ضرور، کیوں؟ اس مشقت کو اللہ بہانہ بنا کر بندے کی باقی کوتا ہیوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔

اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی مشقت آئی ہی نہیں چاہئے، کسی کو بخار ہو جائے گا، کسی کا گلا خراب ہو جائے گا، کسی کا پیٹ خراب ہو گیا، کوئی یہاں پہنچا سامان گم ہو گیا، کسی کا ساتھ والا بندہ کچھ دیر کے لئے گم ہو گیا، کوئی عرفات گیا

اور وہاں خیسے میں سے گم ہو گیا، کوئی مزدلفہ میں گم ہوا، کوئی شیطان کو نکریاں مارنے گیا تو وہاں مشقت اٹھانی پڑی، کسی نہ کسی انداز سے کچھ نہ کچھ مشقت ضرور آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں ہم ان مشقتوں کو کہتے ہیں کہ نہ آنے پائیں، ہم مشقتوں کو حل کرتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ level بڑھاتے جاتے ہیں، اچھا تم نے اس کو نالا اوپری مشقت آئے گی، اس کو نالوں گے اور اوپری آئے گی، اس کو نالوں گے اور اوپری آئے گی۔

عہد بھرا واقعہ

ایک مرتبہ ایک صاحب حج کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے، اور وہ اللہ کا بندہ اتنا امیر تھا کہ خود کہتا تھا کہ مجھے اپنا حساب کرنے میں ایک مہینہ لگے گا کہ میں کوئی میں پیسہ کتنا ہے؟ اس نے حج کا انتظام کیا اور یہاں پر بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا پھر اس نے ایک Lemozin (مہنگی گاڑی) کرانے پر لی، حج کے پورے دنوں کے لئے کہ وہ ہوٹل کے نیچے کھڑی رہے، کہیں مجھے یا میری بیوی کو کہیں آنا جانا ہو تو کام لگے، اور ایک مقامی عرب بندے کو اس نے پورے حج کے دنوں کے لئے نوکری پر رکھا کہ میں آپ کو اتنے ہزار روپیال دوں گا اتنے دن آپ میرے ملازم رہیں، ڈرائیور بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ایک سیکریٹری بھی اس نے رکھ لیا، کہتا تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں پانی کی طرح پیسہ بھاؤں گا، مجھے حج پر مشقت ہی نہیں آسکتی، میں نے اسے سمجھایا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، کیوں مصیبت میں پڑتے ہو؟ تم لیوں بڑھاتے جاؤ گے اللہ بھی لیوں بڑھاتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ اس نے کہا کہ جی نہیں، اور وہ اپنے ساتھ پیسے بھی بینک میں اتنے ٹرانسفر کر کے آیا کہ میرے خیال میں اس سے سو بندے حج کر سکتے ہوں گے، اُنی طرف سے اس نے پورے انتظامات کر لئے۔

اللہ کی شان دیکھئے جس کے دنوں میں ایک دن مجھے اس کا فون آیا کہ میری

بیوی گم ہو گئی، بھی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، نیک خاتون ہے وہ کیسے گم ہو سکتی ہے؟ اس نے تو پہلے آدھا درجن حج کے ہیں، اکھنے لگا جی گم ہو گئی، چلو ڈھونڈو بھی، پورے حرم میں ڈھونڈھر ہا ہے، پھر پولیس والوں سے رابطہ، پھر فلاں سے رابطہ، کہیں کچھ پتہ نہیں، حتیٰ کہ اس بندگی نے پیسے دے کر مکملہ مٹی وی پڑھی اعلان کروایا، مٹی وی کے اوپر اعلان ہوا، کسی کو پتہ ہوتا تو پتا، پولیس والوں کو کہا، حتیٰ کہ اپنے رسوخ کے ذریعے اس نے گورنر مکہ سے رابطہ کیا، اور اسکے ذریعے اس نے پوری پولیس کو پیغام بھجوایا، دو دن اسکورونا پڑا تینی موئی آنکھیں ہو گئیں سوچ کر، بار بار مجھے کہتا کہ میرا کیا بنے گا، میری بیوی میرے بچے، بار بار مجھے کہتا کہ میرا کیا بنے گا، میری بیوی میرے بچوں کا کیا ہو گا، میری زندگی، میں اسے کہتا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، دور کعت پڑھواب اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اپنے سامنے دور کعت نفل نماز پڑھوائی، ابھی دعا کر کے اٹھا تھا اسی وقت اسے کال (Call) آئی کہ فلاں اسپتال سے آپکی بیوی کافون ہے،

ہوا یہ کہ بیوی نے گرمی میں کئی طواف کئے اس نے آکے دور کعت نفل پڑھئے کے لئے ایک جگہ پیشی تو وہیں پر وہ بیہوش ہو گئی، sun's stroke (لوگنا) جس کو کہتے ہیں، وہ ہو گیا اور چونکہ اس وقت اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا کارڈ نہیں تھا اس کو پولیس والوں نے ایبلنس میں ڈلوا کر کہیں دور مستھنی (ہاسپل) میں بھجوادیا، وہ پھر ایک دو دن میں جب اسکی طبیعت ٹھیک ہوئی تب جا کر اس کے خاوند کو اطلاع دی،

کہتا تھا کہ حضرت آج میں نے زندگی کا ایک بہترین اصول سیکھا کہ بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے، پسہ آتا ہے تو بندہ خدا بن میٹھتا ہے۔

تو یہ ذہن میں رکھیں حج کے سفر میں ہر بندے کو کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی مشقت آتی ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے مشقت طلب نہ کریں، معافیاں مانگیں کہ

ہم اس کے قابل نہیں ہیں، آجائے تو صبر کر لیں، تو تھوڑے ہی میں کام چل جائے گا، یہ ایسا ہی ہے کہ بچہ اگر غلطی ہی کر چکا ہوا اور باز بھی نہ آئے تو باپ پہلا تھیر آہستہ لگاتا ہے کہ معافی مانگ لے اور اگر وہ ڈھینا (ضدی) بنار ہے تو دوسرا اور یادہ، اور اگر ڈھینا بنار ہے تو جوتا اتارتا ہے، پھر ڈنڈا اٹھاتا ہے یہ اسی طرح ہی ہے، تو بھی ہم شروع سے ہی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہم کمزور ہیں بس ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماتو نزلہ زکام سے ہی بات ٹل جائے گی۔

تو تین باتیں عرض کی گئی،

(۱) ایک استغفار کی کثرت کریں۔

(۲) دوسرا مرضی کے خلاف کام ہو تو فوری ردعمل کے بجائے صبر کر کے اپنے نامہ اعمال میں اجر لکھوائیں۔

(۳) اور تیسرا جب کوئی کام اپنی مرضی مثلاً کے مطابق ہو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، شکر ادا کرنے سے اللہ رب العزت انسان کے اوپر سے عذاب کو تاثل دیتے ہیں،

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بَعْدَ أَبْكَمْ﴾ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اپنی زبان میں سمجھنے کے لئے اس کا مفہوم ہیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تمہیں عذاب دے کے اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ﴿إِنْ شَكْرُتُمْ وَأَمْشَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا﴾ اگر تم ایمان لا اور شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا، تو معلوم ہوا کہ شکر پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب اسی طرح ہاتے ہیں جس طرح استغفار پر بندے کے اوپر سے عذاب کو تاثل دیتے ہیں۔

تو یہ پانچ عمل ہیں جن میں سے تین اعمال آج آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیئے، انشاء اللہ اکلی مجلس میں بقیہ دو اعمال بھی ذرا کھول دیئے جائیں گے۔

واخر دعوا ان الحمد لله رب العالمين

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾

# آداب زیارت مدینہ

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

## فہرست عنوانوں

نمبر شمار	عنوان	صفحات
۱	دو حرم محترم	۲۰۱
۲	اعمال کا اٹواب	۲۰۱
۳	ظاہری حسل کے ساتھ روحانی حسل بھی	۲۰۵
۴	موقع کے مناسب دعائیں	۲۰۶
۵	محبوب کی خدمت میں تخفہ	۲۰۶
۶	خبردار! یہ جائے ادب ہے	۲۰۷
۷	اعتراف سے احتراز کریں	۲۰۸
۸	الل مدنیہ کی ضیافت کا انکار نہ کریں	۲۰۹
۹	موجہ شریف پر حاضری	۲۱۰
۱۰	حاضری سے پہلے صدقہ	۲۱۱
۱۱	مولجہ رکشی دیر کھڑے رہیں	۲۱۲
۱۲	ایک گھنٹی کی بات	۲۱۲
۱۳	حضرت نانو تو گی گی حاضری	۲۱۳
۱۴	دل کیسا ہو؟	۲۱۳

اللہ اللہ اللہ

## اقتباس

بلا لو اب تو اے آ قاٹھر جانا نہیں اچھا  
 ترپ کر یوں دل مضطرا کا مر جانا نہیں اچھا  
 مدینہ کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر  
 تعلق ہونہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا

اسلئے جب مدینہ طیبہ حاضری ہو تو دل میں نبی ﷺ کی بھی  
 محبت بھی ہو

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد  
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿لَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَكُ فِيهِمْ رَسُولًا﴾

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم

دن گئے جاتے تھے دن جس کے لئے

الثرب العزت نے اپنے فضل و کرم سے آج زندگی میں پھر ہمیں اس محترم اور

قدس شہر میں ملا دیا۔

## دو شہر مقدس

یہ دو شہر ہیں دونوں شہر نبی ہیں ایک کا نام مکہ مکرمہ اور دوسرے کا نام مدینہ طیبہ، ایک میں خدا کا گھر ہے اور دوسرے میں اس کے رسول ﷺ کا گھر ہے ایک گھر کو خلیل اللہ نے آباد کیا اور دوسرے شہر کی مسجد کو رسول اللہ ﷺ نے آباد کیا، ایک نبی ﷺ کا مولد ہے کہ اس میں ولادت ہوئی اور دوسرانبی ﷺ کا مسکن ہے، ایک شہر میں نبی ﷺ کے اجداد مدفون ہیں اور دوسرے شہر میں نبی ﷺ خود مدفون ہیں اور آپ کے اہل بیت مدفون ہیں، چنانچہ یہ دونوں شہر کے دورنگ ہیں ایک میں جلال کارنگ ہے دوسرے میں جمال کارنگ ہے اگر آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کے مزاج کو دیکھیں تو آپ کو ان میں جلال کارنگ نمایاں نظر آئے گا حتیٰ کہ اگر کوئی چیز خریدتے ہوئے ایک سے دوسری مرتبہ آپ بات کریں تو وہ یا اللہ کہہ کر قصہ کو سمیٹ دیں گے، اور اگر مدینہ طیبہ میں بات کرنے کا موقع ملے تو یہاں کے لوگوں میں عاجزی، اپنا سیت، محبت زیادہ نظر آئے گی، تو ایک میں الثرب العزت

کے جلال کا منظر نظر آتا ہے اور دوسرے میں اللہ رب العزت کے جمال کا منظر نظر  
آتا ہے یہ دو شہر ہیں جن کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ہے  
بمکہ بنی ازر تو حید نورے  
بیشرب از حبیب اللہ ظہورے  
گرایں دو شہر ایمان رانہ دیدے  
چہ دیدی گر دریں دنیا رسیدے  
اگر آپ نے ایمان کے ساتھ ان دو شہروں کو نہیں دیکھا تو پھر دنیا میں آکر آپ  
بنے دیکھا ہی کیا ہے؟

### دو حرم محترم

یہ مدینہ طیبہ بھی حرم ہے مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت نے حضرت خلیل کی دعا پر  
حرم قرار دیا اور مدینہ طیبہ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی دعا پر حرم بنایا، آج  
تک ہم تصور کی آنکھ سے گنبد خضرا کو دیکھتے رہے آج اللہ نے وہ گھڑیاں دیں کہ  
ہمارا پورا بدن آنکھ بن کر گنبد خضرا کی زیارت کرے گا۔

### اعمال کا ثواب

نبی ﷺ کی مسجد میں حاضری بہت بڑی سعادت ہے، چنانچہ ایک حدیث میں  
فرما [من زار قبری و جبت له شفاعتی] جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس  
کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب  
ایک لاکھ نمازوں کے برابر اور یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دس ہزار کے  
برا برا، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے اسلئے اسکو مدینہ طیبہ کہتے ہیں، طابہ کہتے  
ہیں، منورہ کہتے ہیں، اس شہر کو اللہ کی رحمتوں نے منور کر کھا ہے  
مدینہ کے دیوار و درجا گتے ہیں

شجر جا گتے ہیں مجر جا گتے ہیں

ہماری اس عمر میں یہاں کی حاضری اسکی مثال یوں ہی ہے  
بایں پیری رہ یثرب گرفتم۔

نو اخواں از سرور عاشقانہ

اس بڑھاپے میں میں نے مدینہ کی راہ کو پایا اور چلا اور میں سرور عاشقانہ کے  
ساتھ اپنے زبان سے اشعار پڑھ رہا ہوں

بایں پیری رہ یثرب گرفتم

نو اخواں از سرور عاشقانہ

چوں آں مرغے کہ در صحرا سر شام

کشا ید پر بفکر آ شیانہ

میری مثال ایسی ہے جس طرح ایک پرندہ سر شام صحراء کے اندر اپنا گھونسلہ تلاش  
کرنے کے لئے اپنے پروں کو پھیلادیتا ہے، اس عمر میں اللہ نے مجھے یہاں پہنچا  
دیا میں نے بھی اپنی آخری آرام گاہ کو ڈھونڈنے کے لئے اپنے پر کو پھیلادیا، ہمارے  
اکابر دعائیں مانگتے تھے رو تے تھے کہ ہمیں اس شہر کا دیدار نصیب ہو جائے

دل میں بسا ہے شوق رہ یار کا حفظ

جائیں گے سر کلبل جو کھی وال طلب ہوئے

چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحبؒ جب مدینہ طیبہ کی طرف چلے تو خواب

میں نبی ﷺ کی زیارت بھی نصیب ہوئی تو انہوں نے اپنا تعریفی کلام کہا تھا۔

اج سک متراں دی ودھیری اے

کیوں دلڑی اداں گھنیری اے

لوں لوں وچ شوق چنگیری اے

اج نیناں نے لا یاں کیوں جھڑیاں

سچان اللہ ما جملک ما حسنک ما اکملک

کتھے مہر علی کتھے تیری شنا  
گستاخ انگھیاں کتھے جاڑیاں

کہ اے مہر علی تو کہاں اور تیری شنا کہاں، تیری گستاخ آنکھیں کہاں جا کر انک  
گئی جس ذات کی تعریفیں خود پر و دگار فرمائے اور قرآن جس پر گواہی دے  
﴿وَرَفَعَنَّالَكَ ذِكْرَكُ﴾ اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اس  
محبوب کل جہاں کے ساتھ جا کر تیری نگاہ لگ گئیں نبی ﷺ کے محبوب کل جہاں ہیں،  
کوئی مٹھداً ایک جگہ ہے وہاں ایک بزرگ مگدرے ہیں خواجہ غلام فرید انکا نام تھا  
ان کا کلام بڑا عمار قانہ رہا، بڑی عجیب بات کرتے تھے، فرماتے ہیں

اتے میں مُثُری نت جان بلب

اوته خوش و سدا وچ ملک عرب

اتے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں

تڈے نام تو مفت وی کاندڑیاں

کہ میں یہاں دھکے کھاتے پھرتی ہوں مگر تیرے نام پر مفت بک رہی ہوں

اتے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں

تڈے نام تو مفت وی کاندڑیاں

تڈی باندیاں وی میں باندڑیاں

میں آپ کی باندیوں کی بھی باندی

تڈے در دکتیاں نال ادب

کہ تیرے در کے کتوں کے ساتھ بھی میں ادب کے ساتھ پیش آؤں گا یہ اللہ

رب العزت حبیب ﷺ کی جگہ ہے

ہے نظر میں جمال حبیب خدا

جس کی تصویر سینہ میں موجود ہے

جس نے لا کر کلام الہی دیا

وہ محمد ﷺ مدینہ میں موجود ہے  
پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی  
جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادشاہ  
ایسی خوشبوچن کے گلو میں کہاں  
جونی کے پسند میں موجود ہے  
ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین  
چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں  
یوں تو جنت میں سب کچھ مدینہ نہیں  
پر مدینہ میں جنت بھی موجود ہے

اب دیکھئے مسجد نبوی میں ریاض الجنت ہے، اللہ نے اسکو جنت کا لکڑا بنا دیا تو اس  
جگہ پر اللہ رب العزت نے ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرا  
بنالیا ہے بھاروں نے گھر مدینہ میں  
مہک رہی ہے فضائے حرم مدینہ میں  
حضور آپ کے قدموں پر منٹے والوں کا  
بجوم رہتا ہے شام و سحر مدینہ میں  
میں کیوں نہ منزل عقبی کی جستو کروں  
مجھے نصیب ہوا ہے سفر مدینہ میں  
یہ آرزو ہے میری اے جبیب رب جہاں  
کہ میں جہاں بھی رہوں دل رہے مدینہ میں  
بنالیا ہے بھاروں نے گھر مدینہ میں  
تو مدینہ طیبہ کا سفر انسان عشق و محبت کے ساتھ کرتا ہے یہ دنیا کے عام  
سفروں سے ایک انوکھا سفر ہے۔

## ظاہری عسل کے ساتھ روحانی عسل بھی

ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں حاضری کا ارادہ ہو تو انسان اپنے سب گناہوں سے پچی پکی توبہ کرے جسمانی عسل کے ساتھ روحانی عسل بھی کر لے یہ پچی توبہ روحانی عسل ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے، گناہوں سے بالکل اپنے آپ کو صاف کر لے، اسلئے کہ دنیا کا دستور ہے کہ دوست دوست سے ملاقات کی ہمیشہ تیاری کرتا ہے، جیسے گھر ملنے کے لئے کوئی امر آپ سوئے ہوئے ہوں تو کبھی انٹھ کر سیدھے ملاقات کے لئے نہیں آئیں گے، لہیں گے کہ ان کو بھاؤ میں ذرا تازہ وضو کروں، کم از کم ہاتھ منہ دھوئیں گے پھر دوست سے ملاقات کریں گے اور اگر بڑے سے ملاقات کرنی ہو تو لوگ کپڑے بھی نئے سلواتے ہیں، اور معلوم نہیں اس جلسے کے لئے کیا کیا تیاریاں کر کے جاتے ہیں، تو یہ طشدہ بات ہے اب ہم یہاں حاضری کے لئے آئے ہیں تو ہماری ملاقات کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے ہر گناہ سے پچی پکی توبہ کر لیں، یہ روحانی تیاری ہے، عسُل توبہ کر لیں، عسل توبہ کے ذریعہ جب ہم گناہوں کو معاف کروالیں گے تو نبی ﷺ کی خدمت میں ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت کی سعادت فیض ہوگی، یہ ذہن میں رکھ لجئے یہ سب سے پہلا کام ہوا۔

بلالو اب تو اے آقا نہیں اچھا  
ترپ کریوں دل مضطركا مر جانا نہیں اچھا  
مدینہ کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر  
تعلق ہونہ جن سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا  
اسلئے جب مدینہ طیبہ حاضری ہو تو دل میں نبی ﷺ کی پچی محبت بھی ہو  
اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا  
مجھ کو بھی محمد ﷺ کا دیوانہ بنا جانا

جور گک کہ روی پر رازی پر چڑھایا تھا  
 اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا  
 جس نیند میں ہو جائے دیدار نبی حاصل  
 اے عشق کبھی مجھ کو وہ نیند سلا جانا  
 قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تھیں  
 اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا

### موقعہ کے مناسب دعائیں

حرم مدینہ میں داخل ہوتو یہ دعائیں گے کہ اے اللہ! یہ حرم محترم ہے اسکی برکت  
 سے مجھے ہر حرام کام سے محفوظ فرمادے، اور مدینہ طیبہ کی نسبت سے یہ دعائیں گے  
 کہ اے اللہ! مدینہ طیبہ میں مجھے حیات طیبہ عطا فرمادے چونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے  
 ہیں ﴿لَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِ أَوْ أُثْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخْيِنَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾  
 تو اللہ رب العزت سے مدینہ طیبہ کی نسبت سے حیات طیبہ کی دعائیں گے۔

### محبوب کی خدمت میں تحفہ

درو در شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، امام شافعیؓ  
 فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلا اس سفر میں مجھے  
 سولہ دن لگے اور سولہ دن میں میں نے سولہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا، جتنا بھی قرآن  
 مجید پڑھیں پھر یہاں آ کر اسکو نبی ﷺ کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ بخشیں دیں، دنیا کا  
 دستور ہے لوگ ہدیہ لے کر آتے ہیں دوست کے گھر جاتے ہوئے کبھی پھلوں کی  
 نوکری لے جاتے ہیں کبھی مشھائی کا ذبہ لے کر جاتے ہیں مختلف چیزیں لے جاتے  
 ہیں یہاں پر ہمارا تحفہ نبی ﷺ کی خدمت میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا  
 اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہے، جو ہم محبوب حقیقی ﷺ کی خدمت  
 میں آ کر پیش کریں گے۔

## خبردار! یہ جائے ادب ہے

اب جب یہاں آ جائیں تو ہم مدینہ طیبہ کی ہر چیز کا احترام اور ادب دل میں رکھیں، حضرت مولانا قاسم نانو توی<sup>ؒ</sup> کے بارے میں آتا ہے کہ بہت نازک طبع تھے جب پیر علی پر پنچے توجوٰتے اتار دئے اور نگے پاؤں چلنا شروع کر دیا کسی نے کہا کہ حضرت سنگال خ زمین ہے پاؤں زندگی ہو جائیں گے فرمایا کہ ہاں قاسم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس جگہ پر میرے آقانے اپنے قدم مبارک لگائے ہوں میں قدموں کے ان نشانات کو جو توں کے ساتھ پامال کروں، میرے آتا کے نشان لگے ہیں اور یہی حال امام مالک کا تھا مدینہ طیبہ کے اندر سواری نہیں کیا کرتے تھے حالانکہ گھوڑے بھی تھے اونٹ بھی تھے، کہتے تھے کیا پتہ جس جگہ میری سواری کا قدم لگے وہاں میرے آقا کے قدم لگے ہوں اسلئے مالک کو یہ زیب نہیں دیتا تو یہاں کی چیزوں کا اتنا لحاظ اور ادب کیا جائے۔

ادب گاپست زیر آسمان از عرش نازک تر  
یہ آسمان کے نیچے ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی نازک ہے  
ادب گاپست زیر آسمان از عرش نازک تر  
نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ایں جا

یہاں آ کر تو جنید اور با یزد کا بھی سانس رکتا ہے، اتنی ادب کی یہ جگہ ہے کہ بندہ سانس بھی آہستہ لے، اللہ رب العزت کے محظوظ<sup>صلی اللہ علیہ وسلم</sup> کی جگہ ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آواز میرے محظوب کی آواز سے بلند ہو گئی ﴿هُوَ الْأَعْلَمُ بِأَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا لِتَشْعُرُونَ﴾ کے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو صحابہؓ ہستہ گفتگو کیا کرتے تھے اتنا ادب کا خیال کیا، چنانچہ حضرت علیؓ کو مسجد بنوی کے دروازے بنوانے تھے تو انہوں نے بنانے والے کارگروں کے ساتھ اس طرح سے بات کی کہ آپ حرم

سے باہر دروازے بنائیں گے سب شور و ہاں ہوا اور مسجد میں لا کر فقط اسکوفٹ کر دیں گے تاکہ یہاں شور نہ ہو، ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ اگر کوئی شور کرتا تھا تو اسکو پیغام بھجواتی تھیں کہ ﴿لَا تُرْفَعُوا أَصْوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ کہ اپنی آواز کو بنی ﷺ کی آواز سے اوپر نچانہ کرو، آج جہاں ہم حاضر ہیں یہ وہ جگہ ہے، تو بہر حال ہم یہاں جتنے شوق و ذوق اور محبت کے ساتھ جائیں گے شرف قبولیت پائیں گے۔

آہستہ قدم، پنجی نگاہ، پست صدا ہو  
خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے  
اے زائر بیتِ نبی یا در ہے یہ  
بے قاعدہ جنبشِ لب یہاں بے ادبی ہے

### اعتراض سے احتراز کریں

بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر اعتراض کر دیتی ہیں، کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنا ہے، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی بھنگی کو باڈشاہ اپنے دربار میں بلائے اور بھنگ کر اعتراض کرنا شروع کر دے کہ نیلی لاشت ہے یہاں پلی ہوتی، یہاں لال رنگ ہے اس کی جگہ پر سیاہ ہوتا تو اسکی تنقید کوئی برداشت کرے گا؟ کہا جائے گا کہ تو بھنگی، تیری اوقات ہی کیا تھی یہاں پہنچنے کی، ہم نے اگر تھے یہاں بلا لیا تو تو یہاں تنقیدیں کر رہا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے یہاں بلا لیا اب ہم یہاں پر کسی بات پر اعتراض نہ کریں، ہمارے حضرتؐ بہت زیادہ اسکا اہتمام فرماتے تھے کہ یہاں خاموشی اختیار کرو، زبان مت کھولو بلکہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی مدینہ طینبہ آیا ہوا تھا، صبح صبح ناشتے کی چیزیں لینے دوکان پر چلا گیا اور بہت سی چیزیں خریدیں، دوکاندار نے کہا کہ وہی بھی لے لو تو اس نے رو انی میں بات کر دی کہ

مدینہ کی دہی تو گھٹی ہوتی ہے، رات کو خواب میں نبی ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ اچھا تم کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی گھٹی ہوتی ہے، تو پھر یہاں سے نکل جاؤ، اب آنکھ کھلی تو بڑا اگھرا یا، علماء سے پوچھا ہر بندہ کہے کہ خواب اگر ایسا ہے تو تمہیں چلے جانا چاہئے، لیکن جی بھی نہیں چاہتا تھا تو اسکے ذہن میں خیال آیا کہ نبی ﷺ کے چچا حضرت حمزہؓ آپ کے دوست بھی تھے آپ کے چچا بھی تھے میں ان کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں اور وہاں جا کر کچھ تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں تا کہ اس کی برکت سے نبی ﷺ راضی ہو جائیں، اس نے ایسا ہی کیا وہ شہداء احمد کی جگہ پر حاضر ہوا سارا دن دعا میں مانگتا رہا، رات کو اس کو خواب میں حضرت امیر حمزہؓ کی زیارت نصیب ہوئی تو سیدنا امیر حمزہؓ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں نبی ﷺ یہ فرمائکے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے لئے ضروری ہے تم عمل کرو ورنہ تمہارا ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے، ہمارے حضرتؓ یہ بات سنا کر رویا کرتے تھے۔

### اہل مدینہ کی ضیافت کا انکار نہ کریں

اور دوسری بات حضرت فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں دعوت اگر ہو تو اسکوردنہ کریں، ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو اور بات ہے حتی الوع رد نہ کریں، کیوں؟ فرماتے تھے کہ ہر دعوت کو یوں سمجھئے کہ یہ دعوت نبی ﷺ کی طرف سے مل رہی ہے، ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں کئی دن سے مسجد نبوی میں مقیم تھا مجھ پر فاقہ آگیا، دو دن مجھ پر بھوکے گزر گئے خیال آیا کہ میں تو نبی ﷺ کا مہمان ہوں تو میں کیوں نہ جا کر آقا کی خدمت میں ہی عرض کروں؟ کہتے ہیں کہ میں مولجہ شریف پر آیا اور میں نے آکر عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے جبیب ﷺ! میں آپ کا مہمان ہوں اور میں بھوکا ہوں فرماتے ہیں کہ میں سلام پڑھ کر دعاماً نگ کر باہر نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی اپنے سر کے اوپر ہندڑیا اور ساتھ میں کچھ روٹیاں لئے ہوئے کھڑا تھا اور

میرا نام پکار رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرا نام کیسے لے رہے ہو کہنے لگا میں تو دوپہر کو گھری نیند سورہاتھا، خواب میں نبی ﷺ کی زیارت ہوئی فرمایا کہ فلاں شخص میرا مہمان ہے اور اسکو کھانا پہنچاؤ، جیسے ہی میری آنکھ کھلی میری بیوی چوپلے ہے سے ہندُ یا اتارہی تھی روٹی اس نے پکائی ہوئی تھی میں نے اسی وقت اسکو کہا کہ اپنے لئے کھانا اور پکالیں گے نبی ﷺ کا ایک مہمان ہے میں نے ہندُ یا سرپر رکھی اور پہلیں قریب، ہی میرا اگر ہے اور میں نے آکر آپ کا نام پکارنا شروع کر دیا۔

### مواجهہ شریف پر حاضری

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ میں مواجهہ شریف پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو علم حدیث پڑھانے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے تو حدیث پاک کے علم کی نسبت کی وجہ سے نبی ﷺ کے سینہ انور سے سورج کی شعاعوں کی طرح نور کی کرنیں نکلتی ہیں اور انکے دل کو منور کر دیتی ہیں تو اس جگہ پر ہم بہت محبت کے ساتھ رہ ہیں، اب طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کریں، مسجد والے اعمال کریں۔

حضرت مولانا یوسف بنوریؒ فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر میں تو پوری مسجد بنبوی ہی مواجهہ شریف کے مانند ہے لہذا وہ جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھڑے ہو کر نبی ﷺ کی طرف دھیان کر کے صلوات وسلام پڑھ لیا کرتے تھے مگر علماء نے لکھا ہے کہ پیشک عام نمازوں میں ایسا ہی کرے لیکن کوشش کر کے کبھی آگے بھی مواجهہ شریف پر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو،

### حاضری سے پہلے صدقہ

اب جب نیت کر لی، توبہ کے نفل پڑھ لئے، سچی توبہ کر لی تو ہمارے اکابرین کا یہ معمول رہا کہ صدقہ بھی کیا کرتے تھے پونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے پیارے حبیب سے بات کرنا چاہو تو تم

صدقہ کرو جیسے ہی یہ آیت اتری حضرت علیؑ نے اس پر عمل کیا پھر اللہ نے امت کیلئے آسانی کر دی اور اس حکم کو منسوخ فرمادیا، لیکن ہمارے اکابرین اس پر عمل کرتے تھے خشاء خداوندی کو جانتے ہوئے، اب صدقہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بندہ سوریاں، ہزار ریال دے، نہیں اگر آپ نیت کر لیں کہ ایک ریال میں ہر مرتبہ کی حاضری سے پہلے دوں گا تو ایک ریال بھی بہت ہے اللہ تعالیٰ تو ایک سمجھو رپر جو خشک ہو مگر اخلاص کے ساتھ دی ہوئی ہو تو اس پر پہاڑ کے برابر اجر دے دیتے ہیں، وہ تو ایسے کریم آقا ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحبؒ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جب بھی حاضری دیتے تھے تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کے بعد ہی حاضری دیتے تھے حتیٰ کہ ایک بار کسی باہر کے ملک سے ہو کر آئے روپہ پر حاضری دی حاضری سے قبل جو صدقہ نکالا تھا اس کا حساب لگایا تو تو دس ہزار ریال تھے۔

اور اس صدقہ نکالنے میں ایک رازیہ بھی ہے کہ صدقہ بلا کوٹا تا ہے، اور نبی ﷺ کی ناراضگی سے بڑی مصیبت کوئی اور ہو نہیں سکتی، تو صدقہ دینے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ اے اللہ! اس صدقہ کی برکت سے ناراضگی والی بلا سے یا مصیبت سے تو ہماری حفاظت فرمائیں، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے مولجہ شریف پر جائیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ حاضری سے پہلے ستر مرتبہ درود شریف پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر ریاض الجنت میں جانے کا موقع ملے تو اچھی بات ہے ذور کعت وہاں پڑھ لیں، دعاء انگلیں ریاض الجنت میں دعا مانگتے ہوئے یہ دعا ضرور مانگئے گے اے اللہ! آپ کے پیارے حبیب ﷺ نے فرمایا کہ جس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر اسکو کبھی جنت سے محروم نہیں کیا جائے گا، توجب آپ نے اپنی رحمت سے دنیا کی اس جنت میں داخل فرمادیا تو اب مجھے آخرت میں جنت سے محروم نہ فرمانا، یہ دعاء انگلے، بہر حال دعاء انگتا ہوا جائے وہاں پہنچ کر یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے «وَلَوْأَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا النَّفَسَهُمْ جَاءُهُمْ

وَكَفَافْتَغْفِرُوا اللَّهُ أَمْ بِيَارِ سَبِيلِهِ! اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو ان کو چاہئے تھا کہ یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ اور اللہ کے رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے تو ﴿لَوْجَدُوا اللَّهُ تَوَابًا رَّحِيمًا﴾ وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ اور حرم کرنے والا پاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ﴿بَلِ اللَّهِ هَمَارِي﴾ بھی شفاعت فرمادیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمادیں، مواجهہ پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں : [الصلوٰۃ والسلام عليك یا سیدی یا رسول الله]

کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا بھی ہے کہ سلام کیسے پڑھنا ہے؟ بہر حال دل کی حاضری کے ساتھ وہاں جا کر کھڑے ہوں، بعض لوگ زیادہ دیر و وہاں کھڑے رہنے کو بہتر سمجھتے ہیں

### مواجهہ پر کتنی دیر کھڑے رہیں

ہمارے حضرت میر شد عالم قرماتے تھے کہ جب تک دل حاضر رہے وہاں کھڑے رہو چاہے تھوڑی یا بھی ہی ہو اور جب ادھرا صر کے خیالات آنے لگیں تو اسکے بعد وہاں سے رخصت ہو جاؤ، یہ مناسب نہیں کہ وہاں انسان جائے اور جا کر دنیا کی باتیں دل میں سوچ رہا ہو، ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں ہوں، اور ادھر ادھر نظر بھی اٹھر رہی ہو، جھکی نظروں کے ساتھ جائے اور ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں، پھر اپنے لئے اللہ سے دعاء لے۔

### ایک نکتہ کی بات

ہمارے حضرت مولانا محمد اشرف شاہ قرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کتابوں میں بڑی مشکل سے یہ ایک نکتہ ملا کہ ”جو آدمی دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اسے پہنچاتا ہے اور جو قریب آ کر درود شریف پڑھتا ہے تو خود میں اسے سنتا ہوں“

حدیث پاک میں یہ آتا ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے، کہ جب قریب آ کر درود شریف پڑھتے ہیں تو نبی ﷺ خود اسے سنتے ہیں تو پھر چاہئے کہ انسان مواجه شریف پر آپ ﷺ کے سامنے کلمہ بھی پڑھ لے اس کے بعد یہ عرض کرے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب ﷺ! میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے اب آپ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی عطا فرمادیں، اور قیامت کے دن جس کے ایمان کی گواہی نبی علیہ السلام نے دے دی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا تو اس بات کو بھی ہم نہ بھولیں۔

### حضرت نانو تو می کی حاضری

حضرت نانو تو می ایک مرتبہ مواجه شریف پر حاضر ہوئے جب باہر نکلے تو چہرہ بڑا منور تھا، بڑا تازہ، پرانوار چہرہ تھا، تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ حضرت آج تو چہرے کا عجیب حال ہے فرمانے لگے!

میرے آقا کا مجھ پر تو ایسا کرم تھا  
بھردیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے  
یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے  
نشہ رنگ لا یا پلانے سے پہلے  
پھر جالیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا۔

سلامت رہے تیرے روٹے کا منظر  
چکتی رہے تیرے روٹے کی جائی  
ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر  
ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلا لی

کس محبت کے ساتھ کہا، بلکہ مدینہ طیبہ سے رخصت ہونے لگے تو یہ کہا۔  
ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا  
جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا

اور پھر حضرت کے وہ اشعار تو بہت ہی معروف ہیں،

امید میں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ

کہ ہو سگا ان مدینہ میں نام میرا شمار

جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں

مرلوں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور دار

اللہ اکبر، کیا دل کی چاہت اور حسرت ہو گی۔

## دل کیسا ہو؟

اللہ رب العزت ہمیں اس جگہ پر خالی دل کو لے کر آنے کی توفیق دے، دیکھتے

آپ کے پاس کوئی برتن لائے کہ اس میں دودھ ڈا دوا اور اس پر گندگی، نجاست  
گئی ہو تو ہم دودھ ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہو سکے، اسی طرح ہم بھی اگر گندے

دلوں کو لے کر وہاں جائیں گے تو پھر اسکیں وہاں جا کر کیا نور آئے گا؟ کیا رحمت  
آئے گی؟ اسلئے دلوں کو پاک صاف کر کے وہاں پر حاضر ہوں، جو صاف دل

کو لے کر جائے گا بھرے ہوئے دل کو واپس لائے گا، اپنے آپ کو پیش کریں کہ  
اللہ کے پیارے حبیب ﷺ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے دین اسلام پھیلا اور آپ

نے اپنے صحابہ کو دین کی محنت کے لئے پوری دنیا میں بھیجا، معاذ ابن جبلؓ کو یمن

بھیجا فلاں کو فلاں جگہ بھیجا میں بھی آج حاضر ہوں مجھے بھی قبول فرمائیجئے اور مجھے  
بھی دین کے لئے آپ یہاں سے رخصت فرمائیے تاکہ میں جاؤں اور دین

کا کام کروں تو یہ دعا میں مانگیں پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی کیا حمتیں ہوتی ہیں  
کیا اللہ کا کرم ہوتا ہے چنانچہ ایک شاعر یہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہاں آکر

ایک عجیب بات کہی، فرمانتے ہیں۔

سو چتا ہوں میں تب جنم لیتا

جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا

چاند ہوتا تیرے زمانے کا  
 تیرے ہاتھوں سے میں بٹا ہوتا  
 میں آپ کے زمانہ کا چاند ہوتا اور آپ کی انگلی کے اشارے سے دوکڑے  
 ہوا ہوتا۔

چاند ہوتا تیرے زمانے کا  
 حکم سے تیرے میں بٹا ہوتا  
 پانی ہوتا وہاں کے چشمیوں کا  
 تیرے قدموں پر بہہ گیا ہوتا  
 نکڑا ہوتا میں ایک بادل کا  
 ساتھ تیرے میں گھومتا ہوتا  
 پیڑ ہوتا کھجور کا کوئی  
 جس کا پھل تو نے کھالیا ہوتا  
 تیرے مجرے کے آس پاس کہیں  
 میں کوئی کچار استہ ہوتا  
 خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی  
 تیرے پاؤں کو چومنتا ہوتا

میں آپ کی گلیوں کی خاک ہوتا اور آپ چلتے تو میں آپ کے پاؤں کو بوسہ  
 دینا اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت کے ساتھ حاضری کی توفیق  
 عطا فرمائے۔

وہ جو شیر میں لختی ہے میرے کمی مدنی  
 تیرے ہونتوں سے چھنٹتی ہے میرے کمی مدنی  
 تیرا کچھیلا دبہت ہے تیرا قامت ہے بلند

تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے کمی مدنی  
 نسل درسل تیری ذات کے مقر و پش ہیں ہم  
 تو غنی ا بن غنی ہے میرے کمی مدنی  
 تو نبی ﷺ کی خدمت میں ہم صلوٰۃ وسلام محبت کے ساتھ جا کر پڑھیں اللہ  
 تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں۔ آمین،  
 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

### مناجات

اپنے دامان شفا عت میں چھپائے رکھنا  
 میرے سر کا رمیری بات بنائے رکھنا  
 میں نے مانا کہ گنہگار ہوں پر آپ کا ہوں  
 اس گنہگار سے سر کا رنجھائے رکھنا  
 ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے  
 خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾

# انتخاب لا جواب

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

## فہرست عنوانوں

شمار	عن	اوین	صفحہ
۱	انسان کو نبھتوں سے نواز آگیا		۲۲۰
۲	ایک عظیم نعمت		۲۲۱
۳	ایک نکتہ		۲۲۲
۴	ابوالانبیاء کے چار امتحان		۲۲۵
۵	سیدنا ابو رایم کی دعا		۲۲۵
۶	زبان کا انتخاب		۲۲۷
۷	شہر کا انتخاب		۲۲۸
۸	قیلیہ کا انتخاب		۲۲۹
۹	ایک اور عطا		۲۳۰
۱۰	والد ماجد کا انتخاب		۲۳۱
۱۱	فطری عفت		۲۳۲
۱۲	ماں کا انتخاب		۲۳۳
۱۳	نام بارک کا انتخاب		۲۳۴
۱۴	دایہ کا انتخاب		۲۳۵
۱۵	ازواج مطہرات کا انتخاب		۲۳۶
۱۶	عفت پر گواہی		۲۳۶
۱۷	پا کیزہ اولاد		۲۳۷
۱۸	دوستوں کا انتخاب		۲۳۷
۱۹	قرآن کا انتخاب		۲۳۷
۲۰	انتخاب دین		۲۳۸

اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

## اقتباس

جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فرمائیں  
 ﴿وَرَفِعَنَاكَ ذُكْرَكَ﴾ اے میرے محبوب ہم نے  
 آپ کے ذکر کو بلند کیا تو ان کے ذکر کی بلندی کا کیا حال  
 ہو گا، ہماری زبانیں قاصر ہیں ان کی تعریف کرنے سے  
 ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں ہم تعریف نہیں کر سکتے، چنانچہ  
 ایک عربی شاعر نے نبی ﷺ کی منقبت پر چالیس ہزار  
 اشعار لکھے اور چالیس ہزار اشعار لکھنے کے بعد اسے  
 آخری اشعار یہ لکھے جن کا ترجمہ ہے

تھکی ہے فکر ساں اور مدح باقی ہے  
 قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے  
 ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے  
 تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے

﴿از افادات﴾

حضرت مولانا پیر  
 حافظ ذوالفقار احمد صاحب  
 نقشبندی مجددی زید مجدد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لَقَدْمَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا﴾

سبحان رب العزت عم اي صفون وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العلمين

اللهم صلی علی سیدنا مہدو علی آل سیدنا مہدو بارک وسلم

اللهم صلی علی سیدنا مہدو علی آل سیدنا مہدو بارک وسلم

اللهم صلی علی سیدنا مہدو علی آل سیدنا مہدو بارک وسلم

## انسان کو نعمتوں سے نوازا گیا

اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے انسان کی ذات میں دیکھیں تو انسان کو اللہ رب العزت نے پیشی عطا کی، گویاً عطا کی، ساعت عطا کی، دن دماغ عطا کیا، اللہ رب العزت نے عقل کے نور سے نوازا مگر ان میں سے کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔

پھر انسان کے لئے اللہ رب العزت نے کھانے کے پینے کی چیزیں بنائیں، سبزیاں دیکھیں، ان کی انواع و اقسام انسان کو حیران کر دیتی ہیں پھر دیکھیں تو قسم قسم کے، مشروبات دیکھیں تو حیران کن حد تک، مگر ان نعمتوں میں سے کسی پر احسان نہیں جتلایا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لئے زمین کے اندر سب خزانے رکھ دئے لوہا زمین سے نکلتا ہے لکڑی جن درختوں سے لیتے ہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں ماربل زمین سے نکلتا ہے شیشہ کی کورز میں سے نکلتی ہے ہمارے ہنہ ہنہ کی جو بھی ضروریات ہیں وہ سب زمین سے وابستہ ہیں مگر اللہ نے ان پر بھی احسان

نہیں جلتا یا پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ہوا کو بنا یا پانی کو بنا یا سورج اور چاند کے نظام کو بنایا یہ پوری کائنات اللہ نے انسان کے لئے سجائی مگر ان میں سے کسی نعمت پر احسان نہیں جلتا یا۔

## ایک غلط یہم نعمت

ایک نعمت اللہ نے ایسی دی کہ دینے والے کو بھی دے کر مزہ آیا اور اسے بھی احسان جلتا یا، کیا فرمایا؟ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ﴿إِذْ بَعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمادیا تو نبی ﷺ کی تعریف کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح الفاظ کے ساتھ احسان جلتا یا ہے یہ نعمت بھی تو ایسی خاص نعمت ہے بجانان اللہ واقعی ہم نبی ﷺ کی کما حقہ تعریف کرہی نہیں سکتے اسلئے کہ ان کی تعریفیں خود رب کریم نے قرآن مجید میں فرمائی جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فرمائیں ﴿وَرَفِعْنَالَّكَ ذِكْرَكَ﴾ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو ان کے ذکر کی بلندی کا کیا حال ہوگا، ہماری زبانیں قاصر ہیں ان کی تعریف کرنے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں ہم تعریف نہیں کر سکتے، چنانچہ ایک عربی شاعر نے نبی ﷺ کی منقبت پر چالیس ہزار اشعار لکھے اور چالیس ہزار اشعار لکھنے کے بعد اسے آخری اشعار یہ لکھئے جن کا ترجمہ ہے

تحقیق ہے فکر رسال اور مدح باقی ہے

قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے

ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے

تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے

عمریں گذر گئیں لیکن نبی ﷺ کی وہ تعریف نہ کر سکے، چنانچہ کہنے والے نے کہا  
یا صاحب الجمال و یا سید البشر

من وجہک المنیر لقدر القمر

لايمکن الشاء کما كان حقه

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

کہ آپ کی تعریف کا احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے بس اتنی ہی بات ہے کہ اللہ کے  
بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے یہی بات جو ہم آخر میں کر سکتے ہیں  
وہ ہیں پیش بشر لیکن تشهد میں اذانوں میں  
جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے

اللہ اکبر بکیرا، چنانچہ حضرت مولانا مناظرا حسن گیلانیؒ نے النبی الخاتم ایک  
کتاب لکھی اور اسکیں چار سو پچاس عنوانات لکھے اور نبی ﷺ کی تعریف کرتے  
ہوئے فرمایا کہ دنیا میں جو آیا وہ جانے کے لئے آیا اور چلا گیا لیکن ایک ایسا آیا کہ  
وہ آیا اور آتا ہی چلا گیا، اللہ اکبر بکیرا، اسکیں کوئی شک نہیں

لاکھ ستارے ہر طرف ظلمتو شب جہاں جہاں

اک طلوع آفتاب دشت و گرگ شہر شہر

اقبال سہیل نے لکھا ہے نبی ﷺ کے بارے میں

کتاب فطرت کے سرورق پر جونام احمد رقم نہ ہوتا

تو نقش ہستی ابھرنہ سکتا و جود لوح و قلم نہ ہوتا

ندوئے حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا

فروع بخش نگاہ عرفان اگر چرا غ حرم نہ ہوتا

حضرت نانو توئیؒ نے نبی علیہ السلام کی منقبت میں لکھا

سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بن ایا گیا

پھر اسی نقش سے ماگ کر روشنی نیزم کون و مکاں کو سجا یا گیا

وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی

علم حکمت میں وہ غیر محمد و دبھی ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا

ایک اور شاعر نے لکھا۔

لوح بھی تو قلم بھی تو تیر او جو دا لکتاب  
 گنبد آب گیند رنگ تیرے محیط میں حباب  
 شوکت سخرا و سلیم تیرے جلال کی نمود  
 فخر جنید و بازیہ تیرا جمال بے نقاب  
 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے  
 علم غیاب و جتو عشق حضور و اضطراب

قریب کے زمانے میں حضرت نصیس شاہ صاحبؒ ایک عاشق رسول تھے  
 انہوں نے نبی ﷺ کی شان میں عجیب بات لکھی فرماتے ہیں

اے رسول امیں خاتم المرسلین  
 تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں  
 ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق ولیقین  
 تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں  
 بزم کو نین پہلے سجائی گئی  
 پھر تیری ذات منظر پہلائی گئی  
 سید الالیں سید الآخریں  
 تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں  
 دست قدرت نے ایسا بنا یا تجھے  
 جملہ اوصاف سے خود سجا یا تجھے  
 لے جل کے جیں لے لد کے جیں  
 تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں  
 تیرا سکہ روں کل جہاں میں ہوا  
 اس زمیں میں ہوا آسمان میں ہوا

کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں  
 تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں  
 کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں  
 کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں  
 تو بہ تو بہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں  
 تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں

کہنے والوں نے یہاں تک آ کر کہا۔

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب  
 ہنوز نام تو گفتمن کمال بے ادبی است

کہ اللہ کے پیارے حبیب ﷺ اگر ہزار بار میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب  
 سے دھولوں پھر بھی آپ کا نام لینا میرے لئے بے ادبی ہی ہے اللہ اکبر

## ایک نکتہ

اب یہاں پر ایک نکتہ سمجھانا ہے مثال سمجھئے کہ اگر ایک ماں بہت امیر ہے اور وہ  
 اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے اور اسکے لئے جیزیرہ بنا رہی ہے تو اسکی کوشش یہی  
 ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز جیزیر کی سب سے اعلیٰ ہو جتنی اعلیٰ ممکن ہے اتنی اعلیٰ  
 چیز خریدو چونکہ اسکے پاس پیسے کی تو کمی نہیں اور محبت بھی بہت ہے لہذا محبت اس  
 بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ محبوب کی ہر چیز اپنی کواليثی میں سب سے اعلیٰ ہونی چاہئے  
 اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو پھر سوچئے کہ ماں اپنی اولاد کے لئے جب کوئی چیز جتنی  
 ہے تو ایک ایک چیز سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس نے ہر چیز بہترین چیز نبی علیہ  
 الصلوٰۃ والسلام اللہ رب العزت کے محبوب لہذا اللہ رب العزت نے نبی ﷺ  
 کو ایک ایک چیز چین کر عطا فرمائی اس نکتہ پر ذرا غور کیجئے،  
 ایک تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اپنی ذات کے فضائل ہیں یقیناً وہ تو بہترین

ہی ہیں، آپ کی ہر ہر چیز میں اللہ رب العزت نے انتساب لا جواب فرمایا، بہترین چیز کو چنا، چنانچہ دیکھنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجناتھا تو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ کوئی اسکے لئے درخواست دے، دعا کرے اور دعا کرنے کے لئے ابوالانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کو چنا،

## ابوالانبیاء کے چار امتحان

(۱) ..... پہلے ان کو چار امتحانوں میں آزمایا، ان سے ایک امتحان یہ لیا کہ خود ان کو آگ میں کوڈنا پڑا،

(۲) ..... دوسرا امتحان یہ کہ اپنی بیوی کو ہباؤاد غیرِ ذہنی رُزِعِ عِنْدَبِیتِکَ المُحَرَّمَ میں چھوڑنا پڑا،

(۳) ..... تیسرا امتحان یہ کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پر رذئ کرنا پڑا،

(۴) ..... چوتھا اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا پڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَإِذَا بَتَّلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلِمَتَ فَأَتَمَهْنَ﴾ اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کے پروردگار نے اس کو چند باتوں میں اور وہ سیٹ پر سیٹ کامیاب ہو گئے فرمایا ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً﴾ اے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بنتا ہوں، سمجھاں اللہ امامت کا منصب اللہ نے عطا فرمایا چنانچہ جب اللہ کا گھر بنانا کر فارغ ہوئے تورب کریم نے فرمایا میرے ابراہیم مجھ سے دعا مانگو، جو مانگنا چاہو مانگو، ہم تو دنیا میں مزدور کو طے شدہ مزدوری دیتے ہیں اسلئے کہ جیب میں میے تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا تم نے کام کر لیا اب جو مانگنا چاہو مانگو، جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، تو مانگنے والے نے بھی مانگنے کا حق ادا کر دیا۔

## سیدنا ابراہیمؑ کی دعا

کہا اللہ میں تجھ سے مال نہیں مانگتا، میں دنیا کا جاہ و جلال نہیں مانگتا، میں تجھ سے اور کوئی منال نہیں مانگتا..... تو میرے ابراہیم! مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اے رب کریم! میں آپ سے آمنہ کالال مانگتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ نعمت مانگی جو اللہ کے خزانے میں بس ایک تھی دوسری نعمت ایسی تھی ہی نہیں، سبحان اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو دعاء مانگی ایک دعاء مانگنے پر ان کو اسماعیل علیہ السلام ملے یہ "اسماعیل" عبرانی زبان کا لفظ ہے اسمع کا مطلب ہوتا ہے سن لے، اور "عیل" کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ! تو اسماعیل کا مطلب ہوا "اے اللہ سن، یہ ان کا نام رکھا تو ایک دعاء مانگنے پر اسماعیل ملے اور دوسری دعاء مانگنے پر حضرت محمد ﷺ ملے اب ذرا غور کیجئے ایک دعاء مانگنے پر اللہ نے محبت عطا کر دیا اتنی محبت کہ چھوٹی عمر میں اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیار، والد پوچھتے ہیں میں نے خواب دیکھا، بیٹا جواب دیتا ہے ﴿بَيَا بَتِ افْعُلُ مَاتُؤْمَرٌ﴾ ابا جان کر گزرے جس کا حکم ہوا ﴿سَتَجِدُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ یہ بات محبت ہی کر سکتا ہے اللہ کے نام پر قربان ہونا، تو پہلی دعاء مانگی تو اللہ نے اپنا محبت عطا فرمادیا اور دوسری مرتبہ دعاء مانگی تو اللہ نے اپنا حبوب عطا فرمادیا، ایک اسماعیل ذبح اللہ اور دوسرے محمد رسول اللہ ﷺ، ایک دعاء مانگی تو اللہ نے زرم و الاعطا فرمادیا اور دوسری دعاء مانگی تو اللہ نے کوثر والا عطا فرمادیا، ایک ذبح اللہ اور دوسرے حبیب اللہ، اللہ تیری دین بھی کتنی بڑی ہے۔

ابراہیم کے لفظی معنی ہیں بزرگی والے، تو اللہ تعالیٰ نے بزرگی والے نبی کو چنانچہ جن کی پشت میں سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، انہوں نے دعاء مانگی ﴿رَبَّنَا وَ أَبَقَنَا بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ اے اللہ! ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمادیجئے، چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا۔

پھر اسکے بعد یکھنے کہ جب زمانہ قریب کا ہو گیا تو پھر دوبارہ اطلاع دی جاتی

ہے جیسے ایک تو ہوتی ہے اذان کہ وقت ہو چکا تیاری کرو اور جب جماعت کھڑی ہونے لگ جاتی ہے تو پھر اقامت کی جاتی ہے تو اقامت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وقت قریب ہے تو اللہ نے ایک تو ابراہیم علیہ السلام سے دعا منکوائی اور فرمایا کہ اچھا میں اپنے رسول کو بھجوں گا اور جب زمانہ قریب ہو تو اللہ نے پھر اعلان کروایا اور اعلان کرنے کے لئے روح اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چنانہوں نے آ کر کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہو گا ۴۰ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَخْمَدٌ۝ انہوں نے آ کر اعلان کیا، اللہ کی شان دیکھیں کہ اعلان کرنے والا عام طور پر جب اشیع پر اعلان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب میں آپ کے اور انکے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا تو اسکو جلدی ہوتی ہے اللہ نے بھی جلدی ایسی کروائی کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا بن باپ کے بھیج دیا اور پھر ایسا جلدی دنیا سے بلا لیا کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا، آسمان پر اٹھا لیا اب میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہوتا چاہتا اور پھر آخر میں جب بیان ختم ہوتا ہے تو پھر وہی اشیع والے صاحب آکر پوری بات کا اختتام کرتے ہیں اللہ نے بھی فرمایا کہ میرے محبوب آپ دنیا سے ہو کر جائیں گے تو میں بعد میں اس اعلان کرنے والے کو پھر آپ کی امت میں بھیج دوں گا وہ آکر پھر آپ کی شریعت کو دنیا میں تافذ کریں گے تو دیکھئے دعا مانگی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اور اعلان کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔

### زبان کا انتخاب

پھر اسکے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک ایک چیز پر غور کریں تو سب سے اعلیٰ نظر آئے گی، مثلاً آپ کی زبان مبارک پر غور کریں تو دنیا میں سینکڑوں زبان میں تھیں عربانی بھی تھی سریانی بھی تھی ہندی بھی اور بھی زبان میں تھیں مگر اللہ نے اپنے پیارے حبیب ﷺ

کو عربی زبان عطا فرمائی، دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے اعلیٰ عربی زبان ہے معانی و مفہوم میں بھی سب سے اعلیٰ، اب دیکھیں نماز پڑھنی ہو تو کہنا پڑتا ہے انگریزی زبان میں Offer Your Prayer تو تین لفظ لگے اردو زبان میں کہنا ہو جو عربی کے قریب ہے تو دو لفظ بولنے پڑتے ہیں کہ نماز پڑھ اور اگر عربی میں کہنا ہو تو ”صل“ صرف ایک لفظ، واہ میرے مولیٰ کیسی زبان ہے جامعیت ہے تھوڑے لفظوں میں زیادہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے فصاحت ہے اور بلاغت ہے فصاحت اور بلاغت کے کہتے ہیں؟

سمجھ میں صاف آجائے فصاحت اسکو کہتے ہیں  
اثر ہو سخنے والے پر بلاغت اسکو کہتے ہیں

تو فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی ہے اسی لئے عربوں کو اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے کو عرب اور دوسروں کو مجنم کہتے تھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے جو زبان عطا کی وہ بہترین زبان ہے قرآن بھی اسی زبان میں بھیجا اور پھر جنت میں بھی وہی زبان بنائی، جنت میں اللہ کے فضل سے سب کے سب عربی زبان جاننے والے ہوں گے،

سنا ہے وہاں ہو گی بولی عرب کی  
مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی

تو جنت میں سب ماشاء اللہ عربی بولیں گے تو زبان کے نقطہ نظر سے محسوس ہوا کہ بہترین زبان اللہ نے اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرمائی۔

### شہر کا انتخاب

اب جگہ کو دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے کس جگہ اپنے پیارے حبیب کو بھیجا مکہ مکرہ، جہاں پر ان اول بیت وضع للناس سب سے پہلاً اگر جو عبادت کی نیت سے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے اول عالم، وسط عالم چنانچہ ابن عباس

فرمایا کرتے تھے کہ لوگو! تم وسط عالم میں ہو، واقعی ایسا ہی ہے دنیا کے نقشہ کو پھیلا کر دیکھ لیجئے بالکل جز ہرہ عرب آپ کو وسط میں نظر آئے گا، تو اول عالم، وسط عالم، مرکز عالم سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، جیسے پانی میں سنکری کو درمیان میں ڈالیں تو پھر چاروں طرف ایک جیسی لہریں اٹھتی ہیں اور ایک وقت میں کناروں پر جا پہنچتی ہیں، اللہ نے بھی اپنے محبوب کو ایسی جگہ بھیجا کہ میرے محبوب آپ یہاں سے دعوت کا آغاز کریں گے اور یہ دعوت ایک وقت میں دنیا کے ہر کونے تک پہنچ جائے گی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیت المقدس میں بھی پیدا فرماسکتے تھے یا بلا دشام میں سے کسی اور جگہ پیدا کر سکتے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے مگر نہیں اللہ نے مرکز عالم کو پسند کیا تو جگہ کے حساب سے دیکھیں تو بہترین جگہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب ﷺ کو عطا فرمائی۔

### قبیلہ کا انتخاب

پھر اسکے بعد قبیلہ کو دیکھیں، آج کمی لوگ بزرگی پاتے ہیں لیکن اگر ان کا قبیلہ دیکھیں تو اتنا اوپنا نہیں ہوتا مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب ﷺ کو اس میں بھی شان عطا فرمائی، اس اعلیٰ علیہ السلام کی اولاد میں چوالیں قبیلہ تھے بنو ثقیف، بنو نظیر، بنو خرزنج، بنو بکر بن واہل یہ سب قبائل تھے لیکن ایک قبیلہ تھا قریش، قریش کا لفظ 'قرش' سے بنا ہے قریش کہتے ہیں وہ جگہ جو حرکت نہ کرے تو مستقل مراجی کی وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا تھا مسٹحکم قبیلہ تھا تو تمام قبائل میں جو سب سے مسٹحکم، سب سے زیادہ عزت والا اور فضیلت والا جو قبیلہ تھا اس قبیلہ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لئے پسند فرمایا، کوئی قبیلہ کے نام پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ قبیلہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا اس سے اچھا قبیلہ کوئی تھا نہیں، ہر ہر چیز پر آپ نظر دوڑاتے جائیں ہر چیز بہترین نظر آئے گی، زبان بہترین، جگہ بہترین، قبیلہ بہترین، پھر اس قبیلہ کی آگے ایک شاخ بنو ہاشم تھی، اتنے مہماں نواز تھے کہ

کہا جاتا تھا کہ یہ تو آسمان پر اڑنے والے پرندوں کے بھی مہمان نواز ہیں یعنی اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ بچا کپا کھانا آسمان کے پرندوں کو کھلادیتے ہیں ایسی مہمان نوازی کرتے تھے۔

### ایک اور عطا

پھر دیکھئے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دادا عبد المطلب تھے ان کا نام شبیہ تھا، انتہائی خوبصورت تھے مگر جب پیدا ہوئے تو سر کے اندر بالوں کی ایک لٹ سفیدی تھی اب سفید بال چونکہ بوڑھوں کے ہوتے ہیں اسلئے ان کا نام شبیہ پڑ گیا، اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ لڑکپن میں یقین ہو گئے تو آپ کی والدہ مدینہ طیبہ سے تھیں وہ ان کو لے کر مدینہ طیبہ چلی گئیں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں ایک حارثی شخص نے دیکھا کہ چند نوجوان تیر اندازی کر رہے ہیں مگر ان میں سے ایک نوجوان ہے جس کا تیرٹھیک نشانہ پر لگتا ہے اور تیر مارنے کے بعد وہ بڑی خوشی کے انداز میں آ کر کہتا ہے کہ میں قریش کی اولاد میں سے ہوں میرا تیر نشانہ پر جا کر لگے یہی بات مجھے بھتی ہے، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ فلاں قبیلہ کا بچہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ مطلب کے دوست تھے وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر مطلب کو کہا کہ تمہارا بھتیجہ اور اس کا یہ حال کہ وہ غربت میں رہ رہا ہے اور تم اپنے علاقہ میں سردار کھلاتے ہو اتنی بھی تمہارے اندر انسانیت نہیں کہ تم اسکو اپنے پاس پالتے، مطلب نے کہا کہ جب تک میں اسکو لے کر نہیں آؤں گا میں چین میں نہیں بنیٹھوں گا چنانچہ اسی وقت مدینہ گئے اسکی والدہ کو کہا، والدہ نے ابتداء میں انکار کیا مگر دوسروں نے سمجھایا کہ تو ایکی پروردش نہیں کر سکے گی، غربت کی وجہ سے بچے کی صلاحیتیں اجاگر نہیں ہوں گی وہ بڑا قبیلہ ہے، بڑا خاندان ہے اگر ادھر بھیج دو گی تو کل یہ بچہ تمہاری آنکھوں کی خندک بنے گا چنانچہ ماں نے دعاوں سے رخصت کر دیا، پچا اپنے بھتیجے کو اپنے پیچھے بٹھا کر لائے بھتیجے کے کپڑے راستے کے

گرد و غبار کی وجہ سے میلے کھلے تھے، جب لوگوں نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک بیچ کو بھا کر لارہا ہے تو انہوں نے عام دستور کے مطابق سمجھا کہ وہ اپنے لئے کہیں سے غلام لے کر آ رہا ہے چنانچہ ان کا نام عبدالمطلب (مطلب کا غلام) پڑ گیا، مکہ میں رہنا شروع کر دیا مگر اللہ نے ان کو خدا داد صلاحتیں دی تھیں، معاملہ فہمی، قوت ارادی، حسن اخلاق، ہمدردی یہ تمام صفات ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں چنانچہ جب عبدالمطلب اپنی جوانی کو پہنچ تو قبیلہ کے سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جیسا کوئی دوسرا آدمی پورے قبیلہ میں نظر نہیں آتا لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم اسکو اپنا امیر بنانا میں اور بیت اللہ کی سمجھی ہم اسکے حوالہ کر دیں، عبدالمطلب بیت اللہ کے والی اور سمجھی بردار بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے دادا بھی وہ پختے جو بیت اللہ کے والی اور سمجھی بردار تھے سبحان اللہ یہ بھی عزت اور شرف کی بات ہے آپ کسی اور قبیلہ میں پیدا ہوتے اور بیت اللہ کا والی کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ ہم شرف میں بڑھ گئے، اللہ نے اپنے حبیب ﷺ کو ہر ہر چیز ایسی دی کہ کوئی شرف میں اس سے اعلیٰ کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، جو لوگ سب سے اعلیٰ چیز میں۔

### والد ماجد کا انتخاب

چنانچہ دادا عبدالمطلب تھے پھر اس دادا کے بارہ بیٹے تھے تو بارہ بیٹوں میں سے کسی کے یہاں بھی نبی ﷺ کی ولادت ہو سکتی تھی لیکن نہیں ان میں سے بعض کے نام بتوں پر تھے ایک بچا کا نام عبد العزی تھا جسے ہم ابو لهب کہتے ہیں، ایک کا نام عبد الشمش تھا، ایک کا نام عبد الحارث تھا، ایک کا نام تھا نوٹل (سخت جگہ) ایک کا نام تھا حمزہ (لبی جگہ) ایک کا نام تھا عباس (پتھر لیلی جگہ) اب یہ بچاؤں کے نام تھے تو انہوں میں سے کسی کے یہاں ولادت ہوتی تو کوئی بندہ کہتا دیکھو نام کیا تھا، نہیں اللہ نے بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو چنا جس کا نام عبد اللہ تھا، اللہ کا بندہ

سوئے حرم، اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے والد کے نام کے ساتھ کسی بست کا نام لگا ہوا تھا، عبد اللہ کو چنا، عبد اللہ بھی اپنے والد کی طرح انتہائی خوبصورت تھے، چہرے پر نور چمکتا تھا۔

ایک نصرانی عورت تھی اس نے کچھ نشانیاں سنی ہوئی تھیں تو اس نے جب حضرت عبد اللہ کو دیکھا تو خود پیش کش کی کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے حضرت عبد اللہ نے انکار کر دیا وہ کہنے لگی کہ اگر آپ نکاح نہیں کرتے تو ویسے ہی مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے میرے ساتھ ویسے ہی تعلقات قائم کر لیجئے تو حضرت عبد اللہ اس وقت جوان تھے فرمایا نہیں میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہو

### فطری عفت

نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں ان ماں اور باپ کے ذریعے سے منتقل ہوتا رہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک درمیان میں کوئی ایک بھی زنا کا مرتبہ نہیں ہوا تو دیکھتے اللہ نے اپنے حبیب کو جو والد دئے ان کا نام عبد اللہ تھا، وہ ذبح اللہ تھے، وہ کیسے؟ اس طرح کہ عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اگر بارہ بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا جب انہوں نے قرعداً الاتوبارہ بیٹوں میں سے عبد اللہ کا نام نکلا، اب ہر ایک نے کہا کہ اتنے چاند سے بچے کو تم ذبح نہ کرو، انہوں نے کہا تو کیا کروں نذر پوری کرنی ہے، کہا کہ اسکے بد لے اونٹ ذبح کر دو، اب عبد اللہ کو ذبح کروں یادس اونٹ کو؟ تو عبد اللہ کا نام نکلا، پھر قرعداً الا کہ عبد اللہ کو ذبح کروں یا بیس اونٹ؟ پھر عبد اللہ کا نام نکلا، ایسا کرتے کرتے جب سوا اونٹوں کے ساتھ قرعداً الاتوباب اونٹوں کا نام نکلا چنانچہ عبد المطلب نے سوا اونٹوں کو ذبح کیا اور عبد اللہ کو ذبح اللہ کہا جانے لگا، چنانچہ ایک اعرابی شخص نے نبی ﷺ کو اکر کہا کہ ابن الذیخین اے دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے! تو نبی ﷺ مسکرا کے اور فرمایا ہاں میرے والد عبد اللہ بھی ذبح تھے اور اسما عیل علیہ السلام بھی ذبح اللہ

تھے میں ان کی اولاد میں سے ہوں تو دیکھئے بہترین دادا، بہترین والد۔

## ماں کا انتساب

پھر اللہ نے ماں کے لئے کن کو منتخب کیا؟ بہت سارے قبیلے تھے بہت ساری لڑکیاں تھیں، ایک لڑکی کا نام خسائے تھا لیکن خسائے کہتے ہیں موٹی شکل والی عورت کو، ایک لڑکی کا نام حر بے تھا یعنی لڑنے والی اس طرح کے ناموں والی کئی عورتیں تھیں مگر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب ﷺ کے لئے ایسی خاتون کو پسند کیا جس کا نام تھا آمنہ امانت والی، یہ اللہ کی امانت اسکے پاس رونی تھی تو اسکے لئے پھر امانت والی بندی ہونی چاہئے تھی بجان اللہ کیا نام پسند کیا، اتنا خوبصورت نام کہ جس میں برکتیں اور رحمتیں ہیں، امانت والی تھیں، ان کے اندر اتنی اچھی صفات تھیں کہ پورا قبیلہ اس بچی کے حسن اخلاق پر ان کی تعریفیں کیا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک خاتون سے شادی کی ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لئے آئے اسماعیل علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے تھے، الہمیہ گھر پر تھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے خیریت کے بارے میں پوچھا، کہنے لگیں کہ ہاں ٹھیک ہے بس خرچ میں اور کھانے پینے میں تنگی ہے، یعنی اس نے چند لفظ ناشکری کے کہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جب خاوند آئے تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھت بدلتے جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو اس نے بتایا کہ ایسے ایک صاحب ملنے کے لئے آئے تھے اور یہ کہہ گئے ہیں انہوں نے کہا وہ تو میرے والد تھے اور چوکھت بدلتے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیوی تمہارے لئے مناسب نہیں، تم دوسرا بیوی کا انتظام کر لو چنانچہ انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس عورت کو فارغ کر دیا پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ آنا ہوا دوسرا بیوی یہوی سے پوچھا اس نے کہا کہ الحمد للہ میرے خاونداتے نیک ہیں اتنے اچھے ہیں متنقی ہیں پر ہیزگار ہیں اچھے اخلاق والے ہیں، بڑی تعریفیں کیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو کہنا کہ تم اسکی حفاظت

کرنایہ چوکھ تھا ری بالکل ٹھیک ہے اسما علیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا تو عورت نے ماجر انسانیا تو اسما علیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور مجھے یہ کہہ گئے کہ تمہاری یہ بیوی اچھی ہے تم اسے عزت و قدر سے رکھو، اب یہاں پر موڑ جیں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی عورت کو کیوں طلاق دلوائی؟ اور دوسری عورت سے نکاح کیوں کروایا؟ اسلئے کہ پہلی عورت نے ناشکری کے الفاظ کہے تھے اللہ رب العزت نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ میرے محبوب کا جو معاملہ نسل درسل آگے چلے گا تو درمیان میں ایک بھی عورت ایسی نہ ہو جو اللہ کی ناشکری کے لفظ کہنے والی ہو۔

تو نبی ﷺ کی والدہ آمنہ تھیں (امانت والی) اور واقعی اللہ کی امانت ان کے پاس آئی تھی۔

اسلئے کہتے ہیں کہ بھرت کے سفر میں نبی ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھوادیں تھیں اللہ نے حضرت علی کو پسند فرمایا لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لئے اور صدیق اکبر کو پسند فرمایا اپنی امانت کو مدینہ پہنچانے کے لئے کہ صدیق میری امانت کو تم مکہ سے مدینہ پہنچا دینا، تو والدہ کا نام آمنہ پسند فرمایا۔

## نام مبارک کا انتخاب

پھر آگے دیکھئے کہ نبی ﷺ کا نام نامی اسم گرامی سب سے بہترین ہے آپ کا نام قرآن مجید میں احمد ہے، احمد کا مطلب وہ ہستی جس نے اللہ رب العزت کی اتنی تعریفیں کی ہوں کہ پوری مخلوق میں کسی نے اتنی تعریفیں نہ کیں ہوں اور واقعی یہ شان نبی ﷺ کی تھی، اور محمد اس کا مطلب وہ ہستی کہ جس کی تعریفیں اتنی کی گئی ہوں کہ مخلوق میں سے کسی کی اتنی تعریفیں نہ کی گئی ہوں تو آپ احمد بھی اور محمد بھی، دونوں نام آپ پر صحیح اور فتح بیٹھتے ہیں، تو نام بھی بہترین اور ایسا نام بھی پہلے رکھا بھی نہیں گیا، تو نبی ﷺ کی زبان عربی سب سے بہترین، آپ کی ولادت جس

جگہ ہوئی وہ جگہ ام القری دنیا میں سب سے بہترین جگہ، آپ جس قبیلہ میں تشریف لائے وہ قبیلہ بہترین، جس شاخ بنوہاشم میں آئے وہ شاخ بہترین، آپ کے دادا بہترین، آپ کے والد عبد اللہ بھائیوں میں سب سے بہترین اور پھر آپ کی والدہ آمنہ، کیسا بہترین نام وہ کس قبیلہ سے تھیں؟ بنو زہرہ میں سے تھیں، بنو قیف میں سے ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے شاخوں والا، بنو نظیر کا نٹوں والا اور بنو زہرہ تروتازگی والا، نام مبارک پر غور کریں تو دیکھئے آدم علیہ السلام اس کا مطلب گندم گوں، بنو ح علیہ السلام نوحہ کرنے والا، زکریا علیہ السلام سبق والا، اور یس علیہ السلام درس والا، یوسف علیہ السلام افسوس والا، یعقوب علیہ السلام بعد میں آنے والا، موسی علیہ السلام پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام سیاحت والا، تو تمام انبیاء کے نام اعلیٰ ہیں مگر ان کے معانی پر ذرا غور کیجئے اور پھر اسکے بعد ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا ﷺ کا نام محمد اور احمد یعنی وہ ہستی کہ جس کی اتنی تعریفیں کی گئیں کہ کسی اور کی اتنی تعریف نہیں کی گئی اور وہ ہستی جس نے اللہ کی اتنی تعریفیں کیں کہ کائنات میں کسی اور نے اتنی تعریفیں نہیں کی، آپ محمد بھی اور احمد بھی۔

### دایہ کا انتخاب

پھر آگے ذرا دیکھئے کہ دایہ کا انتخاب، اب دایہ کا قبیلہ بنو سعد تھا، سعد کا مطلب ہوتا ہے سعادت والا، نیک بخت، تو سعادت والا قبیلہ اور دایہ کا نام حلیمة تھا حلم والی عام طور پر جو عورتیں بچے پالتی ہیں تو کئی مرتبہ چھوٹا بچہ روتا ہے تو وہ جلد بازی میں جھڑک دیتی ہیں، تھہڑ لگادیتی ہیں، کھینچ کر اٹھا لیتی ہیں، نیچے ڈال دیتی ہیں، کسی نہ کسی طرح غصہ کا اظہار کر دیتی ہیں اسلئے کہ حلم نہیں ہوتا اور انہوں نے تو اللہ کے محبوب کی پرورش کرنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ چھوٹے ظرف والی کام نہیں آئے گی، بچہ کئی دفعہ ناز بھی تو کر لیتا ہے، کئی دفعہ ماں سے روٹھ بھی جاتا ہے اور پھر ماں اس کو مناتی بھی ہے تو یہ نخرے تو وہی اٹھائی گی جس کا ظرف بڑا ہو گا جس کا حلم بہت زیادہ

ہوگا، اللہ نے دایکو چناتو حلیمه سعدیہ کو، حلم والی بھی تھی اور سعادت والی بھی تھی۔

## از واج مطہرات کا انتخاب

پھر اللہ رب العزت نے نبی ﷺ کے لئے بیویوں کو چنا، یہ ایک مشقیل لمبا عنوان ہے ایک ایک بیوی ایسی کہ اپنی صفات میں بہت بزرگی اور شرف والی، چنانچہ سب بیویوں کے ذر امام ہی سن مجھے چونکہ اسم باسمی جیسا نام ویسا انسان کا کام ”خدیجہ“ حاجیوں کی خدمت کرنے والی ”سودہ“ آرام والی ”عائشہ“ عیش دینے والی ”حفصہ“ رات کو قیام کرنے والی ”میمونہ“ بختوں والی ”صفیہ“ منتخب کی ہوئی ”زنیب“ استغفار والی ”ام سلمہ“ سلامتی والی ”ام حبیبہ“ پیار والی، اللہ نے بیویاں بھی دیں تو ہر بیوی کا نام دیکھوا اور جیسا ان کا نام تھا ویسا ہی ان کا کام تھا خود اللہ فرماتے ہیں ﴿يَسَأَلُ النَّبِيَّ لَسْتُنَّ كَآخِدِهِنَ الْبَسَاءَ﴾ کہ اے نبی کی بیویوں! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم چنی ہوئی عورتیں ہوں، تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، تو دیکھو نبی ﷺ کو اللہ نے بیویاں بھی چنی ہوئی دیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لئے تو جریل امین تشریف لائے تھے اور آ کرنی ﷺ کو ان کی تصویر دکھلائی تھی کہ اس کو اللہ نے آپ کے لئے پسند کیا۔

## عفت پر گواہی

دیکھیں دنیا میں نیکوں پر بھی بہتان لگے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلوائی، حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تو ﴿وَشَهَدَ شَاهِدُهُنَّ أَهْلِهَا﴾ اللہ نے دو دھمیتے بچے سے گواہی دلوائی۔

اور نبی ﷺ کی زوجہ محترمہ پر منافقوں نے بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ کسی بچے سے بھی گواہی دلو سکتے تھے لیکن نہیں رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب آپ کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں دلوں کا بھید جانے والا پروردگار خود

اسکی پا کدا منی کی گواہی دیتا ہوں اللہ اکبر بکرا۔

## پا کیزہ اولاد

پھر آگے دیکھنے بیٹوں کا انتخاب فرمایا تو نبی ﷺ نے بیٹوں کے نام رکھے ”قasm“ تقسیم کرنے والا نبی ﷺ نے فرمایا [إِنَّمَا أَنْتَ قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي] ایک کا نام نبی ﷺ نے ”طیب طاہر“ رکھا پاک، ”ابراہیم“ بزرگ، تو نام بھی دیکھو کیسے نام دیئے، بیٹیوں کا انتخاب ”زینب“ استغفار والی، ”رقیۃ“ خاوند کی خدمت کرنے والی، ”ام کلثوم“ بچوں کی تربیت کرنے والی، ”فاطمہ“ دوزخ کی آگ سے آزاد۔

## دوستوں کا انتخاب

پھر دیکھنے یہ تو گھر کے لوگ تھے، پھر گھر کے بعد انسان کے دوستوں کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ نے نبی کے یار کوں سے پسند فرمائے، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی الرقیب، عشرہ عبشہ، فرمایا الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوٌّ لِّنَبِيِّ  
فرمایا میرے تمام صحابہ عدل والے، فرمایا اصحابیٰ کلْنَجُومْ فَبِأَيْمُونْ اقْتَدَيْتُمْ  
اہتَدَيْتُمْ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پاجاؤ  
گے، دوست بھی چنے تو ایسے واہ میرے مولی!

## قرآن کا انتخاب

اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لئے کتاب بھی چنی تو کونی؟ قرآن۔  
پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ فقط کتابیں ہیں کتابی شکل میں آگئی تھیں  
صحیفوں کی شکل میں آگئی تھیں مگر نبی ﷺ کا اللہ نے جو کلام عطا کیا وہ کلام اللہ ہے،  
نبی ﷺ نے فرمایا [تَبَرَّكَ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ] قرآن سے برکت حاصل  
کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے اپنا کلام عطا فرمادیا اور اسکی حفاظت کا بھی ذمہ

لے لیا،

دیکھئے! اللہ "رب العالمین"

اور نبی علیہ السلام "رحمۃ للعالمین"

اور قرآن دیا تو فرمایا "ذکری للعالمین" جہانوں والوں کے لئے یہ نصیحت ہے

اور بیت اللہ دیا تو فرمایا "ہدی للعالمین"

واہ میرے مولی! آپ نے کیا عزتیں بخشیں اپنے پیارے حبیب ﷺ کو۔

### انتساب دین

پھر دین دیا اللہ نے تو کونسا؟ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ بہترین دین، پہلے والے جو ادیان ہیں ان کے نام کسی شخصیت کی طرف یا قبیلہ کی طرف منسوب تھے چنانچہ عیسائی اشارہ ہے عیسیٰ ﷺ کی طرف کا نکے مانے والے ہیں، یہودی یہودا قبیلہ کی طرف اشارہ لیکن ہمارے دین کا مطلب کیا؟ اسلام، "سلامتی والادین" اور واقعی یہ دین ایسا ہی ہے اللہ کا کتنا کرم اور احسان کہ اللہ نے اپنے کرم سے ایسا دین عطا فرمادیا تواب اس سے یہ پتہ چلا کہ درخواست دینے والا بہترین، پھر جس کی نسل سے آپ تشریف لائے اساعیل ذیع اللہ وہ بہترین، پھر عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ وہ بہترین، پھر دادا اپنے وقت میں وہ سب سے بہترین، والد اپنے بھائیوں میں بہترین پھر آپ ﷺ کی زبان بہترین، قبیلہ بہترین، شاخ بہترین، پھر آپ جس جگہ پڑائے وہ جگہ مرکز عالم سب سے بہترین، پھر آپ کے لئے جو بیویاں منتخب ہوئیں وہ سب سے بہترین، بیٹیاں سب سے بہترین، بیٹے سب سے بہترین، دین ملاسب سے بہترین، قرآن ملاسب سے بہترین۔

اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو حسن جمال عطا کیا وہ لا جواب بس جان اللہ

وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطْ غَيْرُنِي

وَأَخْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ  
خُلِقْتَ مُبِيرًا نَّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ  
كَانَكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

والليل سیاہی زلفوں کی چہرہ اوضھی اسکا  
سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محبت ہے خدا اسکا  
رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ  
ایسا حسن عطا فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے جبیب کو  
دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم  
اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم  
گرنہ ہوتا آمنہ جایا امت کاغم کھانے والا  
خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم

وہ اللہ کے پیارے جبیب جن کو اللہ نے ہر چیز بہترین عطا فرمائی اسستی کے  
دروازے پر ہم حاضر ہیں اس دیوار میں ہم حاضر ہیں آپ کو اللہ نے رہنے کے لئے  
جو شہر دیا وہ بھی مدینہ، منورہ، طیبہ، بہترین شہر عطا فرمایا۔ لیکن اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ  
بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ  
حَسُنَتْ بَسِيمُ خَصَالِهِ صَلُوَاعَلَيْهِ وَآلهِ

ظفر علی خان نے تو محفل ہی لوٹ لی ۔

دیار پیرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دلہنر چومتا ہوں  
شراب عشق نبی کو پی کر مزے مزے سے میں جھومتا ہوں  
اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے پیارے جبیب طیبۃ کا سچا عشق عطا فرمادے،  
سر کے بالوں سے لیکر پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت سے مزین فرمادے تاکہ  
جب ملک الموت آئے اعضاء کو ٹھوٹے تو سنت نبوی سے مزین پائے جب

دلوں کو شو لے تو عشقِ محمدی سے بھر پور پائے آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

محمد!

ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے

جو یادِ مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا نہیں کرتے  
 حقیقت میں وہ لطفِ زندگی پایا نہیں کرتے  
 زبان پر شکوہ رنخ والم لا یا نہیں کرتے  
 نبی کے نام لیواغم سے بھرایا نہیں کرتے  
 یہ دربارِ محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے  
 ار سے ناداں یہاں دا من کو پھیلایا نہیں کرتے  
 یہ دربارِ محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا  
 یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے  
 محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا  
 یہاں کھر ہائے کھر میں شرمایا نہیں کرتے  
 گنہ گاہ کو تم بخشنے کس تم سے حمد کرتے ہیں  
 محمد! ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے

حج و عمرہ

اک نظر میں

# عمرہ کا طریقہ

## احرام کی تیاری

سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، مونچیں کتریں، زیناف اور بغل کے بال صاف کریں۔  
غسل

احرام کی نیت سے غسل کریں، ورنہ وضو کریں۔

## احرام کی چادریں

اب مرد ایک سفید چادر بلند ہیں دوسری اوڑھیں اور جوتے اتار کر ہوائی چپل پہنیں، خواتین کا احرام انکا مقامی وہ لباس ہے جو شرعی تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔

## نفل نماز

سرڈھا مک کر دو رکعت نفل ادا کریں۔

## مشورہ

ہوائی جہاز سے جانے کی صورت میں نیت و تلبیہ کے سواباتی کام گھر یا ایر پورٹ پر کریں اور جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت نیت اور تلبیہ پڑھیں

## نیت

اب اپنا سرکھولیں اور نیت کریں، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لئے عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں آپ اس کو میرے لئے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے۔

تبلیغیہ

نیت کرتے ہی تین بار لبیک کہیں

لَبِيْكَ اللّٰهُمَّ لَبِيْكَ، لَبِيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيْكَ،  
اَنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ،

دعا

اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ میں آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور وزخ سے پناہ چاہتا ہوں اور اس موقع پر سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو دعا مانگیں یا بتلائی ہیں وہ بھی مانگتا ہوں وہ سب میری طرف سے قبول کر لیجئے۔

### احرام کی پابندیاں

احرام کی نیت کر لینے کے بعد، خوشبو لگانا، مل کر نہا، خوشبو دار صابن استعمال کرنا، ناخن کاشنا، بال کاشنا، میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا، بوس و کنار کرنا، یا میاں بیوی کا آپس میں شہوت کی بات کرنا، گالی گلوچ کرنا، مرد عورت کا اپنے چہرے پر کپڑا لگانا، مرد کا اپنے سر کو ڈھانپنا یہ سب ممنوعات احرام سے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہئے۔

### کعبۃ اللہ پر پہنچی نظر

جب حرم شریف میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، نیز کسی یکسوئی کی جگہ کھڑے ہو کر جو بھی دعا اللہ سے کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔

### طواف کی تیاری

مرد حضرات چادر کو دہنی بغل سے نکال کر باسیں کندھے پر ڈالیں، اور داہنا

کندھا کھلارہنے دیں، طواف باوضوف وری ہے۔

## طواف کی نیت

اب خاتہ کعبہ کے سامنے جس طرف مجر اسود ہے اس طرح کھڑا ہو کہ پورا مجر اسود آپ کی دینی طرف رہ جائے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت کریں، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لئے عمرے کا طواف کرتا ہوں آپ اس کو میرے لئے آسان کرو جیجے اور قبول کر لیجئے، پھر قبلہ روہی دائیں طرف کھک کر بالکل مجر اسود کے سامنے آجائیں اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں اور ہتھیلوں کا رخ مجر اسود کی طرف کریں، اور کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد و الصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، اور دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔

## استلام

پھر استلام کریں، یا استلام کا اشارہ کریں اور یہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد و الصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، اور دونوں ہتھیلوں چوم لیں۔

## طواف شروع کریں

استلام کے بعد دائیں طرف مزکر طواف شروع کریں،

## ہدایت

~~مذکور~~ مجر اسود، رکن یمانی ماور طیزم پر، اکثر خوشبوگی ہوتی ہے، اس لئے حالت احرام میں ان کو ہاتھ نہ لگائیں، ذرا گاڈورہی رہیں، ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے۔

## تاکید

مجر اسود کے استلام یا اشارہ کے سوا دوران طواف خاتہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خصوصی خیال رکھیں۔

رمل

اکڑ کرشانے ہلاتے ہوئے قریب قدم رکھ کر قدرے تیزی سے چلے اور صرف پہلے تین چکروں میں اس طرح چلے باقی چکروں میں حسب معمول چلیں۔

### استلام یا اشارہ

ہر چکر کی ابتداء میں اگر بسانی ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کرے ورنہ اشارہ کرے اور ہتھیلی چوم لے۔

### طواف ختم

سات چکر پورے ہونے پر، آٹھویں بار حجر اسود کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے طواف ختم کرے۔

### اضطیاع موقوف

سات چکر کامل ہونے کے بعد اب دونوں کندھے ڈھانک لیں۔

### واجب الطواف

اب حرم میں کسی بھی جگہ دور کعت واجب الطواف ادا کریں۔

### زمزم پینا

زمزم پیسیں اور دعا کریں۔

### سمی

سمی کرنے کے لئے حجر اسود کا نواں استلام یا اشارہ کرے اور صفا کی طرف روانہ ہو جائے، سمی باوضو سنت ہے، سمی کے لئے نیت بھی ضروری ہے، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لئے صفا اور مروہ کے درمیان سمی کرتا ہوں اس کو میرے واسطے آسان کر دیجئے، اور قبول فرمائجئے، اور حمد و شکر کے بعد دعا کرے۔

## مرودہ کی طرف روانگی

صفا سے اتر کر مرودہ کی طرف چلیں، جب بزر لائٹوں کے نیچے سے گزریں تو مرد حضرات دوڑیں عورتیں اپنی رفتار سے چلیں، اور یہ دعا کریں رب اغفر و ارحم  
انت الاعز الاکرم

### مرودہ پر پہنچ کر

پھر مرودہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، یہ ایک چکر ہوا، دوسرا صفا پر اور تیسرا  
چکر مرودہ پر مکمل ہو گا۔

### سعی کا اختتام

اس طرح ساتواں چکر مرودہ پر ختم ہو گا، ہر چکر میں مرد حضرات بزر تنوں کے  
درمیان دوڑیں گے لیکن خواتین نہیں دوڑیں گی۔

### نفل شکرانہ

اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانہ کی دنفل رکعت حرم میں ادا کریں۔  
حلق یا قصر۔

سعی کے بعد مرد سارے سر کے بال منڈوا کیں اور عورتیں سارے سر کے بال  
انگلی کے ایک پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتریں اور یہ یقین حاصل کریں کہ  
از کم چوتھائی سر کے بال کتر چکے ہیں۔

### عمرہ مکمل

حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب نہاد ہو کر  
کپڑے بدل لیں اور گھر بار کی طرح رہیں دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ  
اس نے عمرے کی سعادت بخشی۔

## حج کے پانچ دن ایک نظر میں

حج کا پہلا دن

آٹھ ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہے، اس دن کا کام یہ ہے کہ مکہ المکرہ سے فجر کی نماز کے بعد منی کے لئے روانہ ہو جائیں اور منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور نویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کریں۔

حج کا دوسرا دن

حج کا دوسرا دن نویں ذی الحجہ ہے، اس دن فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو منی سے عرفات کے لئے روانہ ہو جائیں،

عرفات کا خاص عمل، تقریر درمنثور میں یہیقی کے حوالے سے افیضوا من حیث افاض الناس کے تحت ایک حدیث جابر بن عبد اللہؓ مُنقول ہے اور یہیقی نے حدیث پوری نقل کرنے کے بعد کہا ہے ”ولیس فی اسناده من ينسب الى الوضع“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو مسلمان عرف کے دن بعد زوال میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر لاءِ اللہ إلَّا اللہُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَسُلْطَانٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورتہ) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً

اَحَدٌ (پوری سورت سورتہ)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الٰلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَّعَلَيْنَا مَعَهُمْ (سورتہ) پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اے میرے فرشتو! اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میرے تسبیح، تہلیل، تکبیر و تعظیم تعریف و شناکی اور میرے رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجا اے میرے فرشتو! تم گواہ رہو میں نے اسکو بخش دیا اور اسکی شفاعت قبول کی اور اگر وہ اہل عرفات کے لئے شفاعت کرتا تو بھی میں قبول

اور عرفات میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں ایک ساتھ ادا کریں گے اور عرفات کے مناسک سے فارغ ہو کر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور مغرب اور عشاء کی نمازوں مزدلفہ کے راستے میں ادا نہیں کریں گے بلکہ دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں ایک ساتھ جمع کر کے ادا کریں گے اور رات مزدلفہ میں گذاریں گے۔

### حج کا تیسرا دن

حج کا تیسرا دن دسویں ذی الحجه ہے، اس دن بہت سارے کام کرنے ہیں اور اس دن مناسک حج میں سے چار واجبات اور ایک فرض کل پانچ امور ادا کرنے ہیں۔

(۱) ..... مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے دوقوف کرنا اور سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے منی کے لئے روانہ ہو جانا۔

(۲) ..... منی میں آ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، اور جمرہ عقبہ کا وقت دسویں ذی الحجه کو سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک افضل ہے اور زوال سے لے کر اگلی رات کی صبح صادق تک پہلے دن کی رمی جائز ہے۔

(۳) ..... اگر ممتنع یا قارن ہے تو رمی کے بعد قربانی بھی کرنا ہے۔

(۴) ..... اگر ممتنع یا قارن نہیں ہے تو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد سر کے بال اتارنا ہے اور اگر قارن یا ممتنع ہے تو قربانی کے بعد سر کے بال اتارنا ہے۔

(۵) ..... حج کا اہم ترین رکن اور فرض طواف زیارت ہے، اگر دسویں ذی الحجه کو وقت میں گنجائش ہو تو طواف زیارت بھی کرنا ہے اور اگر اس دن گنجائش نہ ہو تو گیارہویں یا بارہویں تاریخ تک موخر کرنے کی بھی گنجائش ہے، مگر بارہویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے طواف سے فارغ ہو جانا واجب ہے اور دسویں ذی الحجه گذارنے کے بعد دسویں ذی الحجه گذار کر دو رات منی میں آ کر گذارنا

مسنون ہے۔  
حج کا چوتھا دن

حج کا چوتھا دن گیارہویں ذی الحجه ہے اس دن کی ذمہ داری صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کی جائے، اور زوال سے پہلے اس دن جمرات کی رمی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ زوال کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر لینا ضروری ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے البتہ اگر بھیڑ کی وجہ سے دن میں رمی نہ کر سکے تو سورج غروب ہونے کے بعد صحیح صادق سے پہلے پہلے تک رمی کرنا بلا کراہت جائز ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرے دن کی صحیح طلوع ہو جانے تک رمی نہیں کی تو پھر دم واجب ہو جائے گا اور اس دن بھی رات منی میں گذارنا ہے۔

### حج کا پانچواں دن

حج کا پانچواں دن بارہویں ذی الحجه ہے، اس دن بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی اسی طرح کرنا ہے جس طرح گیارہویں تاریخ کو کیا تھا لیکن بارہویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے رمی سے فارغ ہو جانا ضروری ہے، اور اگر ازدحام کی وجہ سے رات میں رمی کی جائے تو بھی گنجائش ہے، اور بارہویں کو رمی سے فارغ ہونے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے منی سے روانہ ہو جانے کا اختیار ہے، لیکن اگر سورج غروب ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ تیرہویں تاریخ کے لئے بھی منی میں رک جائے اور اگر رات میں منی سے روانہ ہو جانا چاہے تو بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور اگر تیرہویں کی صحیح صادق ہو جائے تو پھر منی سے تیرہویں تاریخ کی رمی کئے بغیر روانہ ہونا جائز نہیں ہے اگر روانہ ہو جائے گا تو دم واجب ہو جائے گا اور تیرہویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد ہی رمی کرنا لازم ہے مگر غروب سے پہلے پہلے رمی سے فارغ ہو جانا واجب ہے اور تیرہویں تاریخ کو غروب کے بعد رمی جائز نہیں ہے اور رمی کا وقت ختم ہو جاتا

ہے اب دم دینے کے علاوہ کوئی حیلہ نہیں۔

اب منی کے مناسک ختم ہو جانے کے بعد حاجی کے اوپر حج کا کوئی کام باقی نہیں رہتا، اب گھر واپس آتے وقت آفاقتی (وہ شخص جو غیر کمی ہو) آدمی کے اوپر صرف طواف و داع واجب ہے اور اہل مکہ پر یہ طواف واجب نہیں۔

## افعال حج و عمرہ کا مفصل نقشہ

حج کی تینوں قسموں اور عمرہ کے وہ تمام افعال جو فرض یا واجب ہیں، ان سب کو ایک نقشہ میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ حاج کرام ایک نظر میں تمام افعال سے واقف ہو جائیں۔

حج قرآن کے افعال

حج افراد کے افعال

شرط	حج و عمرہ دونوں کا حرام	شرط	احرام
رکن	طواف عمرہ سنت	طواف قدوم مع رمل	۱
سنت	طواف عمرہ میں رمل واجب	سُعیٰ بین الصفا والمرأة	۲
واجب	رکن عمرہ کی سعیٰ	وقوف عرفہ /	۳
سنت	واجب طواف قدوم مع رمل	وقوف مزدلفہ	۴
واجب	حج کی سعیٰ واجب	یوم آخر میں جمراۃ عقبہ کی رمی	۵
رکن	واجب وقوف عرفہ	سرمنڈانا	۶
واجب	رکن وقوف زیارت	طواف زیارت	۷
واجب	واجب گیارہویں کی رمی تہجد	گیارہویں و بیانی کی رمی تہجد	۸
واجب	سنت قربانی	منی میں رات گذارنا	۹
واجب	واجب سرمنڈانا	طواف وداع	۱۰
رکن	طواف زیارت	.	۱۱
واجب	گیارہویں بارہویں کی رمی جمار	.	۱۲
سنت	منی میں رات گذارنا	.	۱۳
واجب	طواف وداع	.	۱۴

## عمرہ کے افعال

## حج تسبیح کے افعال

۱	عمرہ کا احرام	شرط	۱ احرام	شرط	۱ احرام
۲	عمرہ کا طواف	رکن	۲ طواف عمرہ	رکن	۲ طواف عمرہ
۳	طواف عمرہ میں رمل	سنت	۳ سعی	سنت	۳ سعی
۴	عمرہ کی سعی	واجب	۴ سرمنڈانا	واجب	۴ سرمنڈانا
۵	ارکان عمرہ کے بعد سرمنڈانا	واجب	۵ طواف وداع	نہ واجب	۵ طواف وداع
۶	آٹھویں ذی الحجه کو حج کا احرام باندھنا	شرط		رکن	وقوف عرفہ
۷				واجب	وقوف مزدلفہ
۸				واجب	یوم آخر میں جمراۃ عتبہ کی رمی
۹				واجب	یوم آخر میں جمراۃ عتبہ کی رمی
۱۰				واجب	قرابانی
۱۱				واجب	سرمنڈانا
۱۲				واجب	جمراۃ عقبہ کی رمی، حلق میں ترتیب
۱۳				رکن	طواف زیارت
۱۴				واجب	گیارہویں بارہویں کی رمی جمار
۱۵				سنت	منی میں رات گذارنا
۱۶				واجب	طواف وداع

## میں تو اس قابل نہ تھا

شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا  
 اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبہ کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا  
 مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام زمزم کا پلا یا میں تو اس قابل نہ تھا  
 ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا  
 بھاگیا میری زبان کو ذکر ال اللہ کا یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا  
 یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا خاص اپنے در کار کھاتونے اے مولا مجھے  
 پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا میری کوتا ہی کہ تیری یاد سے غافل رہا  
 تو ہی مجھ کورہ پلا یا میں تو اس قابل نہ تھا میں کہ تھا بے راہ تو نے دشکیری آپ کی  
 عہدو وہ کس نے نبھایا میں تو اس قابل نہ تھا عہد جبور وزائل تجھ سے کیا تھا یاد ہے  
 تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کا نصیب گندب حضر اکا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا  
 میں نے جو دیکھا سو دیکھا جو وہ گاہ قدس میں میں نے جو پاپا سو پا یا میں تو اس قابل نہ تھا  
 بار گاہ سید کو نین میں آ کر نصیب  
 سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا

## نعت رسول ﷺ

از حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب  
 نبی اکرم شفیع علیم دکے دلوں کا یام لے لو  
 تمام دنیا کے ہم تائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو  
 شکر کشی ہے تیز دھار انظر روپوش ہے کنارا  
 نہیں کوئی ناخدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو  
 عجیب مشکل میں کامل ہے مشکل بجا ہے مشکل پا بدل ہے  
 بیکل رہبر چپے ہیں رہرن انہوڑ را انتقام لے لو  
 قدم قدم پہے خوف دہن زمیں بھی دمیں بھل بھی دش  
 زمانہ ہم سے ہوا ہے بدگن جمیں محبت سے کام لے لو  
 کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی نداق جانے ہے ہم سے  
 تمام دنیا خطا ہے ہم سے خروخ خراہم لے لو  
 یکسی منزل پہ آگئے ہیں نہ کوئی اپنا ہے ہم کسی سے  
 تم اپنے داکن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو  
 یہل میں بدل ہے اپنے طیب ہزار قدوس پر جا کے اک دن  
 سناؤں ان کو میں حال دل کا کبول میں ان سے سلام لے لو

حضرت اقدس دامت برکاتہم  
کے ارضِ حرم میں ہونے والے خطبات کا مجموعہ

## سونح

- عشق و مستی کا سفر
- اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو
- عاز میں حرمین شریفین کے لیے رہنمابا تین
- مناسک حج و عمرہ کے معارف
- دربار رسالت میں حاضری کیسے؟
- کیسی مدینے کی راتیں؟ کیسی مدینے کی باتیں؟
- عشاق کے احوال

ہر وہ زائر جو یہ سفرِ شوق کر چکا ہو، یا جو تم نما اور ارادہ رکھتا ہو،  
اسے یہ خطبات ضرور پڑھنے چاہئیں۔